

31 Duk wadda ta dawwama a kan xa'ar Allah da Manzonsa a cikin ku, kuma ta yi aiki nagari, abin yarda a wurin Allah, to zamu bata ninkin ladan watan ta cikin mata, kuma mun tanadar ma ta lada mai girma a lahira, shi ne Aljannah.

32 Ya ku matan Annabi Muhammad (S.A.W), ku ba kamar sauran mata kuke ba, wurin falala da matsayi, kuma babu wadda zata kama qafarku, matuqar kun kamanta umarnin Allah, kun nisanci haninsa. Kada ku tausasa murya, ku siranta sauti, idan kun tashi yin magana da bare daga cikin mazaje, sai wanda a zuciyarsa akwai cutar munafinci da sha'awar haramun ya yi kwaxayin varna. Ku faxi magana, wadda babu shakka a cikinta, ta gaskiya ba ta wasa ba, gwargwadon buqata.

33 Ku tabbata a cikin gidajen ku, kada ku fita daga cikinsu ba tare da wata buqata ba, kada ku bayyana kyawun ku, kamar yadda mata suke yi kafin zuwan musulunci, ta yadda suke bayyana jan hankalin maza, ku yi sallah a cikakkiyar kama, ku bada zakkar dukiyoyinku, ku yi biyayya ga Allah da Manzonsa. Haqiqa Allah yana so ya tafiyar muku da cuta da qazanta, ya ku matan Annabi (S.A.W), ya ku iyalan gidansa, yana so ya tsarkake zukatan ku, ta hanyar yi muku ado da kyawawan xabi'u, da nesanta ku daga munanan xabi'u, tsakakewa cikakkiya, ta yadda babu wata qazanta da zata yi saura.

34 Kuma ku tuna abin da ake karantawa a cikin gidajen ku, na ayoyin Allah, da ya saukarwa Manzonsa, da kuma sunnar Manzonsa mai tsarki.

Haqiqa Allah mai tausasawa ne a gare ku, yayin da ya yi muku baiwa ya sanya ku a gidan Annabinsa (S.A.W), kuma masanin lamarinku ne, yayin da ya zave ku kuka zamo matayen Annabinsa (S.A.W), kuma ya zave ku, kuka zamanto iyayen dukkan Muminai daga al'ummar sa.

35 Lallai waxanda suke qanqan da kai ga Allah da biyayya a cikin maza, da masu qanqan da kai da biyayya a cikin mata, da masu gasgata Allah cikin maza da masu gasgata Allah cikin mata, da masu yin xa'a ga Allah maza, da masu xa'a ga Allah mata, da masu gaskiya cikin imaninsu maza, masu gaskiya cikin imaninsu mata, da masu haquri a kan xa'ar Allah da barin savo da musifa maza, da masu haquri a kan xa'ar Allah da barin savo da musifa mata, da masu bayar da sadakar dukiyoyin su a farilla da nafila, a cikin maza da mata, da masu yin azumin farilla da nafila saboda Allah, a cikin maza da mata, da masu kiyaye al'aurar su, ta hanyar suturce ta ga wanda bai dace ya gani ba, da kuma nisantar alfashar zina, da abubuwani da suke kai wa ga zinar, a cikin maza da mata, da masu tina Allah a zukatan su, da harshen su, sau da yawa, a bayyane da voye, a cikin maza da mata, Allah ya tanadar musu gafarar zunuban su, da kuma lada mai tarin yawa a ranar alqiyama, shi ne Aljannah.

Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Yana daga nusarwar Alqur'ani ga mace: hana ta tausasa murya, da umartar ta da zama a gidanta, sai dai idan wata buqata, da hana ta yin shigar tsiraici.

2 - Falalar iyalan gidan Annabi (S.A.W). Matansa suna cikin iyalan gidansa.

3 - Asali shi ne daidaita tsakanin namiji da mace a wajen aiki da sakamako sai dai a abin da shari'a ta kevance kowa da wani abu.

* وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلَاحًا نَوْتَهَا
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَمَا يَعْسَأُ النَّبِيَّ
لَسْتُنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَنْقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فِيَطْمَعُ الْذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٢٣ وَقَرَنَ
فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقْمَنَ
الصَّلَوةَ وَأَتَيْنَ الْرَّكْوَةَ وَأَطْعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظْهِرَ
تَطْهِيرًا ٢٤ وَأَذْكُرْ مَا يُشَكِّلُ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ
ءَائِيَّاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَلِيلَيْنَ وَالْقَلِيلَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاسِعِينَ وَالْخَاسِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّتَّامِينَ وَالصَّتَّامِيَّاتِ وَالْمُحْفَظِينَ
فُوْرَجَهُمْ وَالْحَفَاظَتِ وَالْذَّكَرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالْذَّكَرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٢٥

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ
لَهُمُ الْخَيْرَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
مُّبِينًا ﴿٢٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنْقَلَ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ
مُبْدِيهِ وَتَخْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى رَيْدٌ
مِّنْهَا وَطَرَازَ وَجَنَّكَهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي
أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَازَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
﴿٢٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ وَسُنْنَةُ اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ
يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَلَكُنْ
بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٢٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدًا بِأَحَدٍ مِنْ رِجَالِ الْكُوفَّ وَلَكُنْ
رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
يَأْتِيَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا ذَكْرَهُ وَاللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٣٠﴾ وَسَبِّحُوهُ
بِكُرْكُرَةٍ وَأَصْبِلًا ﴿٣١﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وَ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٣٢﴾

(36) Ba ya inganta ga Mumini, ko Mumina, idan Allah da Manzonsa suka yanke wani hukunci a kansu, ya zama suna da sauran wani zavi cikin karvar hukuncin, ko kuma qin karvar sa. Duk wanda ya savawa Allah da Manzon sa to, haqiqa ya vata ga barin tafarki madaidaici, vata mabayyani.

(37) Ya kai wannan Manzo ka tuna lokacin da kake gayawa wanda Allah ya yi masa ni'imar Musulunci, kuma kai ma ka yi masa ni'imar 'yantawa daga bauta, ana nufin Zaid bin Harithah, lokacin da ya zo neman shawarar sakin matar sa Zainab bintu Jahash,- sai ka ce masa: "Ka riqe matar ka, kada ka sake ta, kuma ka ji tsorun Allah ta hanyar bin umarninsa, da nisantar haninsa". Kana voye abin da Allah ya yi maka wahayinsa a cikin zuciyarka na aurenka da Zainab, don tsorun mutane, alhal kuma Allah zai bayyana sakin da Zaid zai yi wa Zainab, da auren ka da ita, kuma Allah ne ya fi cancanta ka ji tsoronsa a cikin wannan lamari. Yayin da hankalin Zaid ya kwanta, ya ji baya son ta, kuma ya sake ta, sai muka aura maka ita, domin kada ya zama akwai laifi ga Muminai idan suka auri matayen 'ya'yansu na riqo, idan sun sake su, kuma iddar su ta cika, haqiqa lamarin da Allah ya tsara sai ya kasance, babu wanda ya isa ya hana shi faruwa.

(38) Babu wani laifi a kan Annabi Muhammad (S.A.W) ko quntatawa, cikin abin da Allah ya halatta masa, na aurun matar xansa na riqo, domin shi a cikin haka, yana bin tsarin

Annabawan da suka gabace shi ne, ba shi ne farko a cikin Annabawa ba, kuma hukuncin da Allah ya yanke na tabbatar da wannan aure, da kuma hana jingina xan riqo zuwa ga mariqinsa, wani abu ne da Annabi ba shi ra'ayi ko zavi a kan haka, hukunci ne da aka zartar babu dawowa a cikinsa.

(39) Waxannan Annabawa waxanda suke isar da saqon Allah, wanda ya saukar musu zuwa ga al'ummunsu, kuma ba sa tsorun kowa sai Allah, kuma ba waiwayawa zuwa ga abin da wani yake faxa yayin da suke aikata abin da Allah ya halatta musu, Allah ya isa ya zama mai kulawa da ayyukan bayinsa, don ya yi musu hisabi a kansu, ya kuma saka musu a kansu, wanda ya aikata alheri ya ga alheri, wanda kuma ya aikata sharri ya ga sharri.

(40) Annabi Muhammad (S.A.W) bai kasance uba ga wani daga cikin mazajen ku ba, ba shi ya haifi Zaid ba, ballantana ya haramta ya auri matar Zaid idan ya sake ta. Sai dai Shi Manzon Allah ne zuwa ga mutane gaba xaya, kuma cikamakin Annabawa, babu wani Annabi a bayansa. Haqiqa ya tabbata Masani ne ga dukkan komai, babu wani abu da yake vuyar masa daga lamarin bayinsa.

(41) Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, ku ambaci Allah a zukatanku, da harsunku da gavvanku Ambato mai yawa.

(42) Kuma ku tsarkake shi, ta hanyar yi masa tasbihi (Cewa Subhanallah) da hailala, a farkon yini da qarshensa, saboda falalar waxannan lokutan.

(43) Allah shi ne wanda yake yi muku rahama, kuma yake yabonku, Mala'ikunsa kuma suke yi muku adduo'in alheri, don ya fitar da ku daga duhun kafirci, zuwa ga hasken imani. Haqiqa Allah mai rahama ne ga Muminai, ba zai azbtar da su ba idan suka yi masa biyayya, suka kamanta umarninsa, suka nisanci abubuwana da ya hana.

❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Wajabcin Mumini ya miqa wuya, kuma ya yarda da hukuncin Allah.

2 - Allah yana ganin abubuwana da suke cikin zukata.

3 - Yana daga matsayin uwar Muminai Zainab bint Jahash, Allah ne ya aurar da ita daga saman bakwai.

4 - Falalar ambaton Allah, musamman a lokutan safiya da maraice.

تَحْيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَيْمَاٰ يَأْيَاهَا
 النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًاٰ وَدَاعِيًّا
 إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًاٰ وَلَيَشِرِّ الْمُؤْمِنِينَ بَأْنَ لَهُمْ
 مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَيْرًاٰ وَلَا تُطِعِ الْكُفَّارِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
 وَدَعْ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًاٰ
 يَأْيَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهُنَّ
 فَهَتَّعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًاٰ يَأْيَاهَا النَّبِيُّ
 إِنَّا أَحْلَلْنَاكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكْتَ
 يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ
 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةٌ
 مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكَ حَمَّا
 حَالَصَةَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا
 عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلًا
 يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًاٰ

44 Gaisuwar Mumina a ranar da za su haxu da Ubangijinsu ita ce: Aminci da kuvuta daga dukkan abin qi, kuma Allah ya tanadar musu lada mai girma – shi ne Aljannar sa - sakayya a gare su saboda yi masa xa'a, da kuma nisantar savon sa.

45 Ya kai wannan Annabi haqqa mun aiko ka ga mutane, don ka zama mai shaida a kansu, cewa ka isar da abin da aka aiko ka da shi gare su, kuma mai bushara ga Mumina da abin da Allah ya tanadar musu na Aljannah, kuma mai tsoratar da Kafirai da abin da ya tanadar musu na azaba.

46 Kuma mun aiko ka a tsayin mai kira zuwa ga kaxaita Allah, da yi masa xa'a, kuma mun aiko ka ka zama fitila mai haske, wanda duk mai neman shiriya yake haskaka da ita.

47 Kuma ka ba wa waxanda suka yi imani da Allah, suke aiki da abin da ya shar'anta musu labari cewa, suna da falala mai girma a wurin Allah, wadda ta haxa da basu nasara a duniya, da tsiransu a lahira, ta hanyar shiga Aljannah.

48 Kuma ka da ka bi Kafirai da Munafikai a cikin abin da suke kira zuwa gare shi, na hana yaxuwar addinin Allah, ka kawar da kai daga gare su, wataqila wannan yasa su yi imani da abin da ka zo musu da shi. Ka dogara ga Allah a cikin dukkan lamarinka, wanda daga cikinsu akwai samun nasara a kan abokan gabarka, Allah ya isa ya zama abin dogaro, wanda bayi za su dogara da shi a cikin dukkan lamarin su na duniya da lahira.

49 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, idan kuka auri mata mumina, sannan kuka sake su gabarin ku tare da su, to, ai babu wata iddar ku a kansu, sawa'un ta hanyar yin jini, ko da watanni, saboda an san kuyuttar mahaifarsu (wato ba su da ciki) saboda rashin tarewa da su. Kuma ku jiyar da su daxi da dukiyyinku, gwargwadon iyawarku, domin sauqaqa musu raxaxin rabuwa da ku, kuma ku barsu su tafi ga iyalan su ba tare da kun cutar da su ba.

50 Ya kai wannan Annabi haqqa mun halatta maka matayen ka, waxanda ka basu sadakin su, kuma mun halatta maka abin da ka mallaka na kuyangu, daga cikin abin da Allah ya baka ganimarsa, daga bayin da aka kamo a wurin yaqi, kuma mun halatta maka auren 'ya'yan wan mahaifinka ko 'ya'yan qaninsa, da 'ya'yan qanwar mahaifinka ko 'ya'yan yan mahaifinka, da 'ya'yan qanin mahaifiyarka ko 'ya'yan wan mahaifiyarka, da 'ya'yan 'ya'yan qanwar mahaifiyarka, waxanda suka yi hijira tare da kai, daga Makkah zuwa Madinah. Kuma mun halatta maka ka auri Mumina, wadda ta baka kyautar kanta, ba tare da ka bata sadaki ba, Matuqar kana son ka aure ta. Amma auren mace kyauta ba tare da sadaki ba, ya kevanta da Annabi ne, bai halatta ga waninsa ba. Haqqa mun san me muka wajabtawa Mumina game da matayensu, ta yadda bai halatta a gare su ba, su auri sama da mata huxu ba, kuma mun san abin da muka shar'anta musu game da bayinsu mata, ta yadda ya halatta su ji daxi da waxanda suka ga dama a cikinsu, ba tare da qayyade adadi ba. Mun halatta maka abin da muka halatta maka daga cikin abin da aka ambata, wanda ba mu halattawa waninka ba, don kada ka shiga cikin qunci ko wata wahala. Haqqa Allah mai yawan gafara ne, ga wanda ya tuba gare shi, kuma mai jin qan bayinsa ne.

Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Yin haquri a kan duk cutarwa, siffa ce ta mai kira zuwa ga Allah na haqqa.
- 2 - An so Mutum ya ba wa matarsa da ya saki, gabarin su tare, wata 'yar dukiya, saboda sanyaya mata rai.
- 3 - Halaccin yin auren kyauta ya kevanta ga Annabi, duk da bai tava yin hakan ba.

* تُرْحِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ أَبْتَغَيَ
 مِمَّنْ عَزَّلَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ عِينُهُنَّ
 وَلَا يَحْرَبَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَارَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيمًا ٥١ لَا يَحِلُّ لَكَ
 النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
 حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَالَكَتْ يَمِينُكَ وَكَاتَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ رَّقِيبًا ٥٢ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُ بَيْوتَ النَّبِيِّ
 إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظَرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ
 إِذَا دُعَيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَغْسِلَينَ
 لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانُوا يُؤْذِي الَّنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْ كُمْ
 وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَتَعَافِفُهُنَّ
 مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُو
 مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ٥٣
 إِنْ تُبَدِّلُو شَيْئًا أَوْ تُخْفِوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥٤

٥١ Ya kai wannan Manzo idan ka ga dama ya halatta ka jinkirta kwanan wadda ka ga dama a cikin matanka, wato ka qi kwana da ita, kuma ka jowo wadda ka ga dama, duk wadda ka nema ta zo, daga cikin waxanda ka jinkirta kwanansu, to babu laifi a kanka cikin hakan. Wannan zavin da yalwata maka da aka yi, an yi ne matanka su ji daxi, kuma su yarda da abin da ka ba su gaba xayansu, saboda sun san baka bar wani wajibi ba, kuma babu wani haqqi da ka yi rowar ba da shi. Allah ya san abin da yake cikin zukatanku – Ya ku maza - na karkata zuwa ga wani sashe daga cikin matanku, ku bar wani sashe. Allah ya tabbata masani ne da ayyukan bayinsa, babu wani abin da yake vuya a gare shi daga cikinsu, kuma mai haquri ne, ba ya gaggauta musu azaba, ko sa tuba.

٥٢ Baya halatta a gare ka - Ya kai wannan Manzo, ka auri wasu matan daban, ba matan da suke qarqashin igiyar aurenka ba, kuma baya halatta ka sake su, ko ka saki wasu daga cikinsu, don ka auri wasu matan daban, ko da kuwa matan da kake so ka aura xin, kyansu ya baka sha'awa, sai dai ya halatta a gare ka ka yi saxaka da wadda ka ga dama daga cikin abin da daman ka ta mallaka, ba tare da qayyade wani adadi ba. Haqiqah Allah mai kulawa ne a kan dukkan komai. Wannan hukunci yana nuna falalar iyayen Muminai, don an hana a sake su, kuma an hana a yi musu kishiyoyi.

٥٣ Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, kada ku shiga gidan Annabi sai dai idan ya yi muku

izinin shiga, ta hanyar gayyatarku zuwa cin abinci, kuma kada idan kun shiga ku tsawaita zama kuna jiran abinci ya nuna, kawai dai idan gayyace ku zuwa cin abinci, to ku shiga, idan kun ci, to ku tashi ku tafi, kada ku zauna sashenku yana xebewa sashe kewa da hira, don zaman hirar da kuke yi yana cutar da Annabi, kuma yana jin kunyar ya ce ku tashi ku tafi, amma Allah ba ya jin kunyar ya yi umarni da gaskiya, don haka ya umarce ku da tafiya, don kada ku cutar da Annabi (S.A.W) da wannan zaman. Kuma idan zaku nemi wata buqata daga matan Annabi (S.A.W), kamar ta mazubi, ko makamancinsa, to ku nema buqatarku, amma ta bayan shamaki, kada ku nema gaba da gaba, don kar idanunku su gansu, don kare musu mutunci, saboda matsayin Annabi. Neman wannan buqatar ta bayan shamaki, shi ne ya fi zama tsarki ga zukatanku da zukatansu, kuma don kada shaixan ya shigar muku da wasuwasi da qawata abu maras kyau, a zukatanku da zukatansu. Kuma bai dace a gareku ba - Ya ku Muminai - ku cutar da Manzon Allah, ta hanyar zama a gidan sa domin yin hira, ko kuma ku auri matansa bayan mutuwarsa ba, domin su iyayen Muminai ne, kuma bai halatta wani ya auri mahaifiyarsa ba, lallai irin wannan cutarwa – wadda daga cikinta akwai auren matansa bayan ya mutu - haramun ce, kuma zunubi ce mai girma a wurin Allah.

٥٤ Idan kuka bayyana wani abu daga ayyukanku, ko kuma kuka voye a zukatanku, to ba abin da zai vuya ga Allah daga cikinsu, domin Allah Masanin dukkan komai ne, babu wani abu daga cikin ayyukanku da yake vuya a gare shi, kuma zai saka muku a kan ayyukanku, idan alheri ka gabatar zaka ga alheri, idan sharri ne zaka ga sharri.

❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Girman matsayin Annabi (S.A.W), a wajen Ubangijinsa, ta yadda Allah ya zargi sahabbai domin suna zama a gidansa, zaman da yake cutar da shi.
- 2 - Tabbatuwar siffar ilimi da haquri ga Allah (S.W.T).
- 3 - Kunya tana cikin xabi'un Annabi (S.A.W).
- 4 - Bada kariya ga matsayin iyayen muminai matan Annabi (S.A.W).

لَاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي إِبَابَاهُنَّ وَلَا أَبْنَاهُنَّ وَلَا إِخْرَانَهُنَّ وَلَا
أَبْنَاءَ إِحْوَانَهُنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخْوَاتِهِنَّ وَلَا نَسَاءَهُنَّ وَلَا مَالَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكِيَّتَهُ يَصْلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأْيَهَا الَّذِينَ
عَامَنُوا صَلَوَاعَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا ٥٦ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
الَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَعْنُهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
مُهِينًا ٥٧ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ
مَا أَكَتَ سَبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَاتَ وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨
يَأْيَهَا النَّبِيُّ قُلْ لَاَرْوَحَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ
يُذَنِّينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا
يُؤْذَنُونَ ٥٩ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٦٠ لِلَّذِينَ لَمْ يَنْتَهُ الْمُنَفِّقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنْغَرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ٦١ مَلَعُونِينَ ٦٢
أَيْنَمَا تُقْفِيُوا أَخْذُوكُمْ وَقُتْلُوكُمْ تَقْتِيلًا ٦٣ سُنَّةُ اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّي لَا ٦٤

٥٥ Babu laifi a kan matan Annabi (S.A.W), iyayensu ko 'ya'yansu, ko 'yan uwansu, ko 'ya'yan yan uwansu maza, ko mata, ko 'ya'yan 'yan uwan su na shayarwa na dangantaka, su gan su ko su yi magana da su ba tare da shamaki ba. Haka nan babu laifi idan mata Muminai ko abin da damansu ta mallaka, su yi magana da su ba tare da shamaki ba. Ku ji tsoron Allah – Ya ku Muminai mata - cikin abin da ya yi muku umarni da abin da ya hana, domin yana ganin duk abin da kuke aikatawa da abin da yake fitowa daga wurinku.

٥٦ Haqiqa Allah yana yabo ga Manzon Allah (S.A.W) a wurin Mala'iku, kuma Mala'ikunsa suna yin addu'a tagari ga Annabi (S.A.W). Ya ku waxanda suka yi imani, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta wa bayinsa, ku yi salati ga Annabi (S.A.W), kuma ku yi masa sallama.

٥٧ Haqiqa masu cutar da Allah da Manzonsa, ta hanyar magana ko aiki, Allah ya nisanta su, ya kore su daga rahamarsa a duniya da lahira, kuma ya tanadar musu azaba mai qasqantarwa a lahira, sakamakon abin da suka aikata na cutar da Manzonsa.

٥٨ Kuma waxanda suke cutar da Muminai maza da mata, ta hanyar magana ko aiki, ba tare da wani laifin da suka aikata ba, wanda zai sa a yi musu hakan, to haqiqa sun xau babbani laifi da zunubi mabayyani.

٥٩ Ya kai wannan Annabi, ka gaya wa matanka, da 'ya'yanka mata, da matan Muminai, su saki hijabansu zuwa qasa, don kada al'aurarsu ta bayyana a gaban mazaje bare, hakan shi ya fi kusanci a gane, su 'ya'ya ne ba bayi ba, babu wanda zai cutar da su, kamar yadda ake cutar da bayi mata. Haqiqa Allah mai gafara ne ga zunuban wanda ya tuba gare shi, kuma mai jin qansu ne.

٦٠ Idan har Munafikai ba su daina munafincinsu ba, ta hanyar voye kafirci da bayyana musulunci, da waxanda a zukatan su akwai fajirci, saboda biyewa son zuciyarsu, da suke kawo maganganun qarya a cikin garin Madinah, domin su raba kan Muminai, to Wallahi zamu umarce ka, ka yi musu uquba, kuma zamu xora ka a kansu, sannan kuma baza su zauna da kai a cikin Madinab ba sai na xan wani lokaci qanqani, saboda halakar da su da za a yi, ko korar su daga cikinta, saboda varnarsu a bayan qasa.

٦١ Su korarru ne daga rahamar Allah. A duk inda aka haxu da su, to a kama su a kashe su kisa na haqiqa, saboda munafincin su, da yaxa varna a bayan qasa.

٦٢ Wannan shi ne tsarin Allah mai gudana dangane da Munafikai, idan suka bayyana munafinci, kuma tsarin Allah tabbatacce ne, babu wanda ya isa ya canza shi har abada.

Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyerwa:

1 - Daukakar matsayin Annabi (S.A.W) a wurin Allah da Mala'ikun sa.

2 - Haramcin cutar da Muminai ba tare da wani sababi ba.

3 - Munafinci sababi ne na saukar azaba a kan ma'abocinsa.

يَسْكُنُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ
 لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ٦٣ إِنَّ اللَّهَ لَعَنِ الْكُفَّارِ وَأَعَدَ
 لَهُمْ سَعِيرًا ٦٤ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَحْدُونَ وَلَيَأْتِوَنَّا نَصِيرًا
٦٥ يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَكْلِتَنَا أَطْعَنَ اللَّهَ
 وَأَطْعَنَا الرَّسُولُ ٦٦ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَتْنَا
 فَأَضْلَلُونَا السَّيِّلًا ٦٧ رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعَفَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ
 وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ٦٨ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 هَذَدُوا مُوسَى فِرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَرَجِيَهَا ٦٩
 يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُولُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠ يُصْلِحَ
 لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيَّنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
 إِلَّا نَسْنَنُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ أَمْنَافَقِينَ
 وَالْمُنَفِّقَاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكَينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٧٣

٦٣ Mushirikai suna tambayarka – Ya kai wannan Manzo - tambaya ta musu da qaryata wa. Haka ma Yahudawa su ma suna tambaya game da tashin alqiyama, wai yaushe ne lokacin? Ka ce da waxannan: “Sanin lokacin tashin Alqiyama yana hannun Allah shi kaxai, ba ni da wani abu a ciki. kuma me ya sanar da kai – Ya kai wannan Manzo - cewa alqiyama kusa take?.

٦٤ Haqiqa Allah ya kori Kafirai daga rahamar sa, kuma ya tanadar musu wuta mai ci balbal a ranar alqiyama, tana nan tana jiransu.

٦٥ Za su zauna cikin azabar wannan wuta da aka tanadar musu har abada, baza su samu wani masoyi ba da zai amfane su, ko wani mataimaki da zai kare su daga azaba.

٦٦ Ranar alqiyama za a rinka jujjuya fuskokin su a cikin wutar Jahannama, za su riqa cewa cikin damuwa da nadama: “Kaicon mu a rayuwarmu ta duniya, ina ma mun yi biyayya ga Allah, ta hanyar kamanta abin da ya umarce mu, da nisantar abin da hana, ina ma da mun bi Manzon Allah a cikin abin da ya kawo mana daga Ubangijinsa.

٦٧ Waxannan sun zo da hujja vatacciya, inda suke cewa: “Ya Ubangijinmu mun yi biyayya ne ga shugabannin mu, da manyan mutanen mu, sai suka vatar da mu tafarki madaidaici.

٦٨ Ya Ubangijin mu, ka sanya wa waxannan shugaban nin namu da manyan mu, waxanda suka vatar da mu daga tafarki madaidaici, ninki biyun abin da ka saka mana na azaba, saboda vatar da mu da suka yi, kuma ka kore su daga rahamar ka, kora mai girma.

٦٩ Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da shari'arsa, kada ku cutar da Annabin ku, sai ku zama kamar waxanda suka cutar da Annabi musa, suka aibata shi a jikinsa, amma sai Allah ya kuvutar da shi daga abin da suka faxa, ya bayyana a gare su kuvutarsa daga abin da suka faxa a kansa. Haqiqa Annabi musa ya kasance mai matsayi ne a wurin Allah, ba a mayar sa abin da ya nema, kuma qoqarinsa baya tafiya ba komai.

٧٠ Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, ku ji tsoron Allah, ta hanyar kamanta umarnin sa, da barin haninsa, ku faxi magana ta gaskiya, wadda take daidai.

٧١ Haqiqa idan ku ka ji tsoron Allah, kuma kuka faxi magana ta daidai, Allah zai gyara muku ayyukan ku, ya karve su, kuma ya kankare muku zunubanku. Duk wanda ya yi biyayya ga Allah da Manzonsa, to haqiqa ya rabauta, rabo mai girma, babu rabon da ya kai shi, shi ne rabauta da yardar Allah, da shiga Aljannah.

٧٢ Haqiqa mun bijirar da xaukar nauyin ayyukan shari'a, da kiyaye dukiyoyi da sirri, ga sammai da qassai da duwatsu, sai suka qi xaukan wannan nauyi, suka gu ji qarshen abin da zai je ya zo, sai xan adam ya xauka. Haqiqa shi mai yawan zaluntar kansa ne, kuma mai tarin jahilci ne game da me zai je ya zo.

٧٣ Xan Adam ya xau wannan amanar bisa qaddarawar Allah, don Allah ya azabtar da Munafikai maza da Munafikai mata, da mushirikai daga cikin maza da mushirikai daga cikin mata, a kan munafincin su, da kuma shirkar su da Allah. Kuma don Allah ya yafe wa Muminai cikin maza da mata, waxanda suka kyautata xaukar amanar da aka xora musu. Allah ya tabbata mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba daga zunuban sa, kuma mai jin qai ne a gare su.

❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Allah ne kaxai ya kevanta da sanin lokacin tashin alqiyama.

2 - Mabiya za su xorawa shugabannin su da manyan su, alhakin vatar da su, amma yin hakan su ma bazai wanke su ba.

3 - Haramci cutar da Annabawa da magana ko aiki, haramci mai tsanani.

4 - Girman amanar da xan adam ya xauka.

Suratu Saba'i

An Saukar Da Ita A Makkah

Daga Manuofin Surar:

Bayanin alamomin da suke nuna ikon Allah, wajen canza yanayi, da bayanin halin halitta wajen ni'ima, tsakanin godiya da kafirci.

Tafsir:

1 Yabo da kirari sun tabbata ga Allah, wanda duk abin da yake cikin sammai, da duk abin da yake cikin qassai mallakinsa ne, ta fuskar halitta, da mallaka, da gudanarwa. Kuma shi ne ya cancanci yabo a lahiria, shi mai hikima ne a cikin halittarsa, da gudanarwar sa, kuma masani ne da halayen bayinsa, babu wani abu da yake vuya a gare shi daga cikinsu.

2 Ya san abin da yake shiga cikin qassai, na ruwa da tsiro, kuma ya san abin da yake fitowa daga cikinta, na tsiro da waninsa, kuma ya san abin da yake saukowa daga sama na ruwa, da Mala'iku, da arziki, kuma ya san abin da yake hawa zuwa ga sama na Mala'iku, da ayyukan bayi, da rayukan su, Allah shi ne mai jin qai ga bayinsa Muminai, mai gafara ga zunuban wanda ya tuba.

3 Waxanda suka kafirce wa Allah suka ce: "Alqiyama ba zata zo mana ba har abada. Ka ce da su - Ya kai wannan Manzo -: "Na rantse da Allah, tabbas sai alqiyamar da kuke qaryata wa ta zo muku, sai dai babu wanda ya san lokacinta sai Allah, saboda Allah ya san duk abin da ya vuya na alqiyama da waninta, babu abin da yake vuya daga iliminsa, koda gwargwadon qaramar tururuwa ne, a cikin sammai da qassai, kai abin da ma bai kai abin da aka ambata ba, wajen qanqanta, ko wajen girma baya vuya a gare shi, kuma face yana rubuce a Lauhul Mahfuz, wanda aka rubuta dukkan abin da zai faru har zuwa tashin alqiyama.

4 Allah ya tabbatar da abin da ya tabbatar a cikin Lauhul Mahfuz, don ya sakawa waxanda suka yi imani da Allah, kuma su ka yi aiki nagari, waxanda suka siffantu da abin da aka ambata suna da gafarar zunubansu daga Ubangijinsu, ba zai kama su da su ba, kuma suna da arziki mai girma, shi ne Aljannarsa ranar alqiyama.

5 Waxanda suka yi aiki tare da qoqari wurin vata abin da Allah ya saukar na ayoyi, suka ce: "Tsafi ne" kuma suka ce a kan Manzon mu: "Boka ne, Matsafi ne, Mawaqi ne. Waxanda suka siffatu da waxancan siffofi, ranar alqiyama suna da azaba mai tsanani da muni.

6 Malamai a cikin Sahabbai, da waxanda suka yi imani daga ma'abota littafi sun shaida cewa: abin da Allah ya saukar maka na wahayi shi ne gaskiyar da babu wani kokwanto a cikinta, kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah Mabuwayi, wanda ba'a rinjayarsa, kuma abin yabo a duniya da lahiria.


7 Waxanda suka kafirce wa Allah, suka cewa sashinsu a cikin mamaki, da izgili ga abin da Manzon Allah (S.A.W) da ya zo da shi: "Shin mu nuna muku wani Mutum, wanda zai ba ku labari idan kuka mutu, ragargaje, wai za a tashe ku bayan kun mutu, ku dawo rayayyu?".

Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Yalwar ilimin Allah mai tsarki, wanda ya kewaye komai da komai.

2 - Darajar ma'abota ilimi.

3 - Inkarin Mushirikai ga tayar da jikin matattu inkari ne ga ikon Allah wanda ya halicce su.



أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِنْنَةٌ بِلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ تَشَكَّسْ فِيهِمْ أَلْأَرْضُ
 أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دُوَادَ مَبْا فَضْلًا
 يَجِبَالُ أُوْيِي مَعَهُ وَالظَّيرَ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنْ أَعْمَلَ
 سَيْغَتٍ وَقَدْرًا فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا عَمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدوْهَا شَهْرٌ وَرَوْلُهَا شَهْرٌ
 وَأَسْلَنَاهُ وَعِنْ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ
 رَبِّهِ وَمَنْ يَزِعُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾
 يَعْمَلُونَ لَهُ وَمَا يَشَاءُ مِنْ مَحَرِّبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
 وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا إِلَهًا دُوَادَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي
 الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ
 إِلَادَابَةً الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاتِهِ وَفَلَمَّا مَخَرَّ تَبَيَّنَ الْجِنُّ
 أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيْشُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

^٨ Suka ce: "Shin wannan mutumin qarya ya qirqira ne ya dangantawa Allah, don haka yake riya abin da yake riyawa game da tashinmu bayan mutuwarr mu, ko kuwa dai mahaukaci ne kawai, yana sambatu da abin da ba haka yake ba?. Lamarin ba yadda waxannan suke riyawa ba ne, kawai dai waxanda ba su yi imani da ranar lahira ba, suna cikin azaba mai tsanani ranar alqiyama, kuma a cikin vata mai nisa a wannan duniya.

^٩ Yanzu waxannan masu qaryata tashi bayan Mutuwa, ba su kalli abin da yake gabansu na qasa ba, kuma su kalli abin da yake bayansu na sama ba, idan muka ga damar kisfe qasa daga qarqashin qafafunsu, sai mu kisfe ta, haka nan idan mu ga damar yanko musu wani vangare na sama, sai mu rufto musu shi. Haqiqa a cikin wannan akwai hujja yankakkiya ga duk bawan da yake yawan komawa ga xa'ar Ubangijinsa, da zai kafa hujja da shi a kan ikon Allah, to wanda zai iya yin haka, mai iko ne a kan tashin ku bayan kun mutu, jikinku ya rididdige.

^{١٠} Haqiqa mun ba wa Annabi Dawud Annabta da mulki daga wurinmu. Kuma muka cewa duwatsu: "Ya ku duwatsu, ku riqa maimaita tasbihi tare da Annabi Dawud (R.A), haka ma muka cewa tsintsaye, kuma muka mayar masa da qarfe abu mai laushi, don ya sana'anta abin da ya ga dama na kayan amfani.

^{١١} Ya kai Dawud ka sana'anta silke masu yalwa, da za su kare mayaqanka daga cutarwar abokan gabarka, kuma ka sanya qososhinka su dace da silkenka, kada su zama qanana qwarai, ta yadda

baza su zauna ba, haka kada ka sa su su yi girma da yawa, ta yadda baza su shiga ba, kuma ku yi ayyuka nagari, haqiqa ni mai gani ne ga abin da kuke aikatawa, babu wani abin da yake vuya a gare ni daga ayyukanku, kuma zan saka muku a kansu.

^{١٢} Mun horewa Annabi Sulaiman xan Annabi Dawud iska, wadda take iya yin tafiyar wata guda da safe, da yamma ma tayi tafiyar wata guda, kuma muka kwararo masa narkarkiyar dalma, don ya qera abin da ya ga dama. Muka hore masa daga cikin aljanu da suke yi masa aikace-aikace a gabansa, da izinin Ubangijinsa, kuma duk wanda ya karkace daga cikin aljannu, daga abin da muka umarce shi da shi na aiki, sai mun xanxana masa azabar wuta mai ci balbal.

^{١٣} Waxannan aljanu suna yi wa Annabi Sulaiman duk abin da yake buqata na gina masallatai, da fadoji, da abubuwan da ya ga dama na zane, da abin ya ga dama na manyan kwanukan abinci, kamar tafkin ruwa mai girma, da tukwanen dafa abinci, waxanda ba a iya motsa su saboda girmansu. Muka ce da su: "Ya ku iyahan Annabi Dawud ku yi godiya ga Allah a kan ni'imomin da ya yi muku, domin kaxan ne daga cikin bayina suke yin godiya a kan ni'imomin da na yi musu".

^{١٤} Yayin da muka hukuntawa Annabi Sulaiman mutuwa, babu wanda ya nusar da aljanu mutuwarsa sai wani qwaro a qasa (Gara), wadda take cin sandarsa, da yake dogara a kanta, yayin da ya faxi, sai ya bayyana ga aljanu cewa basu san gaibu ba, domin da sun san gaibu, da ba su zauna a cikin azaba ta qasqanci ba, da abin da suke yi na ayyukan wahala, waxanda suke yi wa Annabi Sulaiman (R.A) don suna zaton yana da rai, yana kula da su.

✿ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Girmamawar da Allah ya yi wa Annabinsa Dawud da Annabta da mulki, da hore masa duwatsu da tsintsaye, waxanda suke yin Tasbihi idan suka ji yana yi, da tausasa masa qarfe. 2 - Girmamawar da Allah ya yi wa Annabinsa Sulaiman da Annabta da mulki. 3 - Samun ni'ima yana hukunta a godewa Allah.

4 - Kevantar Allah da sanin gaibu. Babu wani dalili ko makama a kan abin da ake riyawa wai aljanu ko wasunsu sun san gaibu.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَّا فِي مَسْكِنِهِمْ أَيْةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ
كُلُّ أَمْنٍ رِزْقٌ رِتَكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ وَلَدَّهُ طِبَّةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيِّلَ الْعَرِمِ وَيَدَلَّهُمْ بِجَنَّتِي هُنَّ
جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِيْ أَكُلُّ خَمَطٍ وَأَثْلٍ وَشَجَعٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ
ذَلِكَ جَرَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ بِحِزْيٍ إِلَّا أَكَفُورٌ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى أُلَّا تَرَكَنَافِهَا قُرْيَ ظَاهِرَةٌ
وَقَدْ رَنَّا فِيهَا السَّيرُ سِيرًا وَفِيهَا إِلَيْنِي وَأَيَّامًا إِمْنِيَّ
فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمْنَا أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ
أَحَادِيثَ وَمَرْقَنَهُمْ كُلَّ مُمْزَقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعَهُ إِلَّا
قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلَطَّانٍ
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَاءَ
وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَاهِيرٍ

Yayin da Allah ya ambaci abin da ya yi ni'ima da shi ga Annabi Dawud da xansa Sulaiman, tsira da amincin Allah su tabbata a gare su, sai kuma ya ambaci abin da ya yi wa mutanen Saba'i ni'ima da shi, sai dai Annabi Dawud da Sulaiman sun godewa Allah, amma mutanen Saba'i sai suka butulce masa, Allah ya ce: **١٥** Haqqa akwai alama bayyananniya dake nuna ikon Allah da ni'imarsa ga qabilar Saba'i, a wuraren da suka zaune: su ne lambuna guda biyu, xaya a dama, xayar a hagu. Muka ce musu: "Ku ci daga arziken Ubangjin ku, ku gode masa a kan ni'imarsa, wannan gari ne mai daxi, kuma Allah Ubangji ne mai yawan gafara, yana gafarta zunuban wanda ya tuba. **١٦** Amma sai suka bada baya, ga barin godiya ga Allah da imani da Manzanninsa, sai muka yi musu uquba da canza ni'imar ta koma azaba, kuma muka tura musu da ruwa mai yawa ya lalata musu dam xin su, ya nutsar da shukarsu, kuma muka canza musu lambunan su da lambuna guda biyu, masu 'ya'yan itatuwa masu xaci, da goruba marar 'ya'ya, da kuma magarya yar kaxan. **١٧** Wannan canji - na canza abin da suke kai na ni'ima - ya faru ne saboda kafircewarsu da bijirewsu daga godewa ni'ima, bama yin irin wannan uqubar ga kowa sai ga mai butulcewa ni'imonin Allah, mai kafircewa Allah.

١٨ Kuma muka sanya a tsakanin mutanen Saba'i da suke garin Yeman, da kuma alqaryu da suke garin Shaam, masu albarka, wasu garuruwa masu kusa da juna, kuma muka qaddara tafiyar dake tsakaninsu, ta yadda zasu iya yin tafiya daga wata alqarya zuwa wata, ba tare da wahala ba, kuma muka ce da su: "Ku yi tafiya a cikinsu yadda kuka ga dama, da dare ko rana, kuna cikin aminci daga abokan gaba da yunwa da qishirwa. **١٩** Sai suka yi girman kai ga ni'imar Allah, ta kusanto musu da tafiya tsakanin garuruwa, suka ce: "Ya Ubangjin mu ka nisanta tsakanin tafiyen mu, ta hanyar gusar da waxannan alqaryu na kusa, har mu xanxani wahalar tafiyen tafiyen, nagartar ababen hawanmu ta bavyana. Sai suka zalunci kawunna su, da yin girman kai ga ni'imomin Allah da bijirewa godiya a kansu, da hassada ga talakawa daga cikinsu, sai kawai muka mayar da su ababen bida labari, waxanda suka zo bayansu, suna hirar su, muka tarwatsa su a cikin garuruwa tarwatsawa, ta yadda baza su iya haxuwa da juna ba. Tabbas cikin abin da aka ambata - na yi wa mutanen Saba'i ni'ima da kama su saboda kafircewarsu da girman kansu - akwai izina ga duk mai yawan haquri a kan yi wa Allah xa'a, da haquri ga barin sava masa, da haquri akan bala'i, kuma mai yawan godiya ga ni'imomin Allah a gare shi. **٢٠** Haqqa Iblisu ya tabbatar da zatonsa a kansu, na cewa zai iya vatar da su daga barin gaskiya, sai suka yi masa biyayya a cikin kafirci da vata, sai fa wani vangare daga Mumina, haqqa su sun tavar da zatonsa a kansu, ta hanyar qin bin sa. **٢١** Iblisu ba shi da wani iko a kansu da zai rinjaye su da shi a kan sai sun vace, kawai dai yana qawata musu vata ne, yana vatar da su. Sai da Mu mun ba shi damar vatar da su ne, don mu bavyana wanda ya yi imani da lahira, da abin da yake cikinta na sakamako, daga wanda yake shakka a kan lahira. Ubangjinka - Ya kai wannan Manzo - dangane da dukkan komai mai kiyayewa ne, yana kiyaye ayyukan bayinsa, yana saka musu a kansu. **٢٢** Ka ce da waxannan Mushirikai - Ya kai wannan Manzo -: "Ku kirawo waxanda kuke riya cewa su allolin ku ne, koma bayan Allah, don su janyo muku amfani, ko su yaye muku wata cuta, amma fa ku sani, su basa mallakar daidai da qwayar zarra a cikin sammai ko qassai, kuma basu yi tarayya da Allah a cikinsu ba, kuma ba shi da wanda ya tava taimakon sa, domin shi Mawadaci ne ga barin abokan tarayya ko mataimaka.

◆ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa: ١ - Godiya tana dawwamar da ni'ima, butulci kuma yana tafiyar da ita. ٢ - Tsaro yana cikin muhimman ni'imomi, waxanda Allah yake wa bayi kyauta da su. ٣ - Ingantaccen imani yana bida kariya ga barin biyayya ga tafarkin shaixan, da ikon Allah. ٤ - Bayyanar da vacin dalilan da suke sa a yi shirka, kamar riya cewa, gumaka suna mallakar wani abu, ko kuma sun yi tarayya da Allah, ko kuma zasu iya yin taimako, ko ceto a wurin Allah.

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ وَحْتَىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ أَعْلَى الْكَبِيرِ
﴿٢٣﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنْ سَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ
وَإِنَّا أَوْيَأْكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ
لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمَنَا وَلَا سُئِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ
يَجْمَعُ بَيْنَنَا بَيْنَنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ
﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونَا الَّذِينَ أَحْقَتُمُ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّابَلْ هُوَ اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَآفَةَ الْنَّاسِ
بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكَيْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾
قُلْ لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقِدُونَ
﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْءَانِ وَلَا
بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عَنْهَ
رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْصُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ
أَسْتَضْعِفُ الَّذِينَ أَسْتَكْبِرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

⁽²³⁾ Ceto ba zai yi amfani a wurin Allah ba, sai ga wanda ya yi masa izini, kuma Allah bay a yin izinin ceto sai ga wanda ya yarda da shi, saboda girmans idan ya yi magana a sama, sai Mala'iku su buga fukafukan su, don sunkuyawa ga maganarsa, har sai firgicin da ya same su daga maganar Allah ya yaye, sai su cewa Jibril: "Me Ubangijin ku ya faxa?" Sai Jibril ya ce: "Ya faxi gaskiya. Kuma Allah shi ne maxaukaki da zatinsa da galabarsa, mai girman da ya fi komai".

⁽²⁴⁾ Ya kai wannan Manzo, ka faxawa waxannan Mushirikai cewa: "Wane ne yake azurta ku daga sama, da saukar da ruwan sama, daga qasa kuma yake fito muku da 'ya'yan itatuwa da shuka da kayan marmari?". Ka ce: "Allah ne yake azurta ku daga gare ta, kuma ko dai mu ko ku - Mushirikai - akwai waxanda suke kan shiriya ko kuma kan vata mabayyani, lalai xayan mu babu makawa yana kan xayan biyun. Babu shakka ma'abota shiriya su ne Muminai, kuma ma'abota vata su ne Mushrikai".

⁽²⁵⁾ Ka ce da su - Ya kai wannan Manzo :- "Ranar alqiyama ba za a tambaye ku zunuban da muka aikata ba, kuma mu ma ba za a tambaye mu zunuban da kuka aikata ba".

⁽²⁶⁾ Ka ce da su - Ya kai wannan Manzo :- "Allah zai haxa tsakanin mu da ku ranar alqiyama, sannan kuma ya yi hukunci na adalci a tsakanin mu, ya bayyana mai gaskiya da mavarnaci, don shi ne mai hukunci da adalci, kuma masanin abin da yake hukunci da shi".

⁽²⁷⁾ Ka ce da su - Ya kai wannan Manzo :- "Ku nuna min waxanda kuka sanya su abokan tarayya ga Allah, kuna haxa su da shi a wajen bauta?. A'a, lamarin ba kamar yadda kuke surantawa ba ne, cewa Allah yana da abokan tarayya, bari dai!, Allah shi ne Mabuwayi wanda babu mai galaba a kansa, mai hikima cikin halittarsa, da qaddarawarsa da tsarinsa.

⁽²⁸⁾ Ba mu aiko ka ba - Ya kai wannan Manzo - sai zuwa ga mutane gaba xaya, mai bishara ga masu taqawa da Aljannah, kuma mai tsoratar da kafirai da fajirai daga wuta, sai dai mafi yawan mutane basu san haka ba? da sun san haka da basu qaryata ka ba.

⁽²⁹⁾ Mushirikai suna cewa - suna masu gaggawar a saukar da azaba :- "Yaushe ne wannan alqawarin azabar zai zo, in har kuna da gaskiya cikin abin da kuke faxa cewa gaskiya ne".

⁽³⁰⁾ Ya kai wannan Manzo, ka cewa waxannan masu gaggawar neman azabar: "Ranar wannan alqawari rana ce da aka iyakance ta, ba zaku yi jinkiri ga barin ta ba, koda xan lokaci kaxan ne, haka ma baza ku gabace ta ba, wannan rana ita ce ranar alqiyama".

⁽³¹⁾ Waxanda suka kafirce wa Allah suka ce: "Ba zamu yi imani da wannan Alqur'anin da Muhammad yake riya cewa an saukar masa ba, kuma ba zamu yi imani da littattafai da aka saukar daga sama a gabainsa ba. Ya kai wannan Manzo da zaka ga azzalumai an tsare su a wurin Ubangijinsu don yi musu hisabi a ranar alqiyama, suna mayar wa da juna maganganu, kowa yana zargin xan uwansa, yana xora masa laifi. Mabiya waxanda aka danne suna cewa shugabannin su, waxanda suka danne su a duniya, suna cewa: "Ba don kun vatar da mu ba, da mun zama masu imani da Allah da Manzanninsa".

❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Tausasawa wanda ake kira, don kada ya faxa taurin kai da girman kai.

2 - Ma'abocin shiriya yana samun xaukaka da wannan shiriya. Shi kuwa vatacce a dilmiye yake cikin vatansa a wulaqance. 3 - Sakon Annabi (S.A.W) gamamme ne ga 'yan adam gaba xaya, haka ma Aljanu.

قَالَ الَّذِينَ آسْتَكَرُوا لِلَّذِينَ آسْتُضْعِفُوا أَنْحَنْ صَدَّدَنَّكُمْ
عَنِ الْهُدَى بَعْدًا إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ٢٢ وَقَالَ الَّذِينَ
آسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ آسْتَكَرُوا بَلْ مَكْرُهٌ يَلِيلٌ وَالنَّهَارٌ إِذْ
تَأْمُرُونَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَنْدَادَهُ وَأَسْرُؤُ الْنَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوْهُ الْعَذَابَ وَجَعَلَنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ يُجْزِونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ
مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُرْتَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ٢٤
وَقَالُوا هَذِهِ أَكْثَرُ أَمْوَالَنَا وَأَوْلَادَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٢٥
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكُمْ أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِمَا تُقْرِبُكُمْ
عِنْ دَنَارٍ لَفَتَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَرَاءَةٌ
الْضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ ءَامِنُونَ ٢٧ وَالَّذِينَ
يَسْعَوْنَ فِي ءَاهَانَةٍ مُعَجِّبِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٢٨
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدَهُ وَيَقْدِرُهُ وَ
وَمَا آنَفْقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ٢٩

٣٢ Waxanda aka yi wa biyayya, masu girman kai ga gaskiya, suka cewa mabiyansu, waxanda suka mayar da su raunana: "Yanzu mu ne muka hana ku bin shiriyan da Muhammad ya zo muku da ita? A'a, kawai dai kun kasance azzalumai ne, mavarnata masu varna.

٣٣ Sai mabiya waxanda shugabannisu suka mayar da su raunana suka cewa waxannan shugabanni: "Makircin ku na dare da rana shi ne ya hana mu shiriya, a lokacin da kuka kasance kuna yi mana umarni da kafircowa Allah da bauta wa halitta koma bayansa. Sai suka voye nadamar su a kan abin suke kai na kafirci a duniya, yayin da suka ga azaba, kuma suka tabbatar za a azabtar da su. Muka sanya sasari a wuyan kafirai. Ba a saka musu irin wannan sakamakon ba, sai don abin da suka kasance suna aikatawa a duniya, na bautar wanin Allah, da aikata savo.

Saboda a lallashin Manzon Allah (S.A.W) yayin da mutanensa suka qaryata shi, sai Allah ya tunatar da shi cewa al'adar al'ummun da suka gabace shi ne qaryata Manzanni. Allah ya ce:

٣٤ Babu wata alqarya da muka aika ma ta Manzo, yana tsoratar da ita azabar Allah, face sai masu jin daxi a cikinta daga cikin masu mulki da matsayi da dukiya a cikin wannan alqarya sun ce: "Ya ku waxannan Manzanni, mu mun kafirce wa abin da aka aiko ku da shi".

٣٥ Masu matsayi suka ce – cikin alfahari da nuna isa :- "Mu ne muka fi yawan dukiya, da yawan 'ya'ya, don haka abin da kuka riya cewa: za'a azabtar da mu qarya ne, ba za a azabta mu ba a duniya da lahira".

٣٦ Ya kai wannan Manzo, ka cewa waxannan da suka ruxu da abin da aka ba su na ni'ima: "Ubangijina mai girma da buwaya yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa, don ya jarrabe shi, shin zai gode, ko kuwa zai butulce? Kuma yana quntata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, domin ya jarrabe shi, shin zai yi haquri, ko kuwa zai yi fushi? Sai dai mafi yawan mutane ba su san cewa Allah mai hikima ne ba, baya qaddara wani lamari sai da hikima babba, wanda ya sani ya sani, kuma wanda ya jahilta kuma ya jahilta.

٣٧ Ba dukiya ku ko 'ya'yan ku da kuke alfahari da su ba ne, za su kai ku ga yardar Allah ba, sai dai wanda ya yi imani da Allah, kuma ya yi aiki nagari, to wannan ya samu lada ninkin ba ninkin, kuma dukiya zata kusantar da shi ga Allah, ta hanyar ciyar da ita a tafarkin Allah, 'ya'yansa kuma ta hanyar yi masa addu'a. Waxannan Mumini masu aiki nagari, suna da lada ninkin abin da suka aikata na kyawawan ayyuka, kuma suna cikin wuraren zama maxaukaka a cikin Aljanna, suna cikin aminci daga abin da suke tsoro na azaba da mutuwa da yankevar ni'ima.

٣٨ Kafiran da suke iya yinsu domin kawar da mutane ga barin ayoyinmu, kuma suke qoqarin cinma manofofinsu, waxannan su ne asararru a nan duniya, ababan azabtarwa a lahira.

٣٩ Ka ce - Ya kai wannan Manzo - : "Haqiqa Ubangijina mai girma da xaukaka yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, kuma yana quntata shi ga wanda ya ga dama, kuma duk abin da kuka ciyar saboda Allah, to lallai Allah zai mayar muku da shi a nan duniya, ta hanyar ba ku wanda ya fi shi, a Lahira ta hanyar bada lada mai yawa. Allah shi ne mafi alherin masu azurtawa, don haka duk mai son arziki to ya koma gare shi.

✿ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Barrantar mabiya da waxanda ake bi, sashensu daga sashe, hakan ba zai wanke kowa ba a gaban Allah.
- 2 - Idan jin daxi ya yi yawa yana nesantar mutum ga barin karvar gaskiya, da jayuwa gare ta.
- 3 - Mumini dukiyarsa da 'ya'yan sa suna amfanarsa, kafiri kuwa basa amfanarsa.
- 4 - Ciyar da dukiya saboda Allah, yana janyo qaruwarta a duniya, da kyakkyawan sakamako a lahira.

وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُلَكِيَّةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ ﴿١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ الْجِنَّاتِ أَكَيْرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا تُشْلَى عَيْنَهُمْ إِيَّاكُمْ بَيْنَتِ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصْدِّقَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ إِبْرَاهِيمُ
وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَفْكَ مُفْتَرٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ لَمَّا
جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُنْيٍّ ﴿٤﴾ وَمَا أَءَيْدَهُمْ مِنْ كُتُبٍ
يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ فَبَلَّكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٥﴾ وَكَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا إِتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا
رُسُلِيٍّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٦﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَحْدَةِ أَنَّ
تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا يَصْحِحُ كُمْ مِنْ
جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْذِرُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٧﴾ قُلْ
مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمَ الْعَيُوبِ

Alqur'ani qarya ne, Muhammad ne ya qirqire shi. Haka kuma ba mu aiko musu da wani Manzo a gabanin zuwanka ba, - Ya kai wannan Manzo - don ya tsoratar da su azabar Allah.

⁴⁵ Al'ummun da suka gabata sun qaryata, kamar Adawa, da Samudawa, da mutanen Annabi Luxu, sai dai Mushirikai daga cikin mutanenka ba su kai xaya bisa goman al'ummun da suka gabata ba a qarfi, da dukiya, da yawa, amma sai kowanne daga cikinsu suka qaryata Manzon su, don haka abin da aka basu na dukiya da 'ya'ya da qarfi da yawa bai amfane su ba, azaba ta ta sauwa a kansu. Ka duba - Ya kai wannan Manzo – yaya inkari na ya kasance a kansu, kuma yaya uquba ta ta kasance. ⁴⁶ Ya kai wannan Manzo, ka cewa waxannan Mushirikai masu qaryatawa: "Kaxai ina baku shawara da nasihar abu guda xaya, shi ne, ku tashi zuwa ga Allah, kuna masu barin son zuciya, kuna ku biyu, ko xai-xai, sannan ku yi tunani a kan tarihin abokinku (wato Annabi), da irin abin da kuka sani na cikar hankalinsa da gaskiyarsa da amanarsa, domin ku gane shi ba mahaukaci ba ne, kawai shi mai yi muku gargaxi ne ga azaba da za ta zo mai tsanani, in baku tuba zuwa gare shi ba, kuka daina shirka.

⁴⁷ Ya kai wannan Manzo ka cewa waxannan Mushirikai masu qaryatawa: "Ni ban tambaye ku wani lada ko wani sakamako ba, game da abin da na zo da shi na shiriya da alheri, kuma idan ma haka ne, ai ku ne za ku ci gajiyarsa, ni ladana yana wurin Allah shi kaxai, kuma shi Allah tsarki ya tabbata a gare shi mai shaida ne a kan komai, zai yi shaidar na isar da saqonsa, haka kuma zai yi shaida a kan ayyukanku, ya cika muku sakamakon ladansu. Yayin da Allah (S.W.T) ya bayyana hujjoji a kan masu shirka da vata, sai ya bayyana cewa dama haka sunnarsa ce, ya ce: ⁴⁸ Ka ce -Ya kai wannan Manzo -: "Allah yana xora gaskiya a kan vata, ta lalata shi, kuma shi mai yawan sanin gaibu ne, babu abin da yake vuya a gare shi cikin Sammai da qassai, haka nan ayyukan bayinsa basa vuya a gare shi".

❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa: 1 - Makauniyar biyayya ga iyaye tana kawar da mutane daga tafarki madaidaici. 2 - Yin tunani tare da watsar da son zuciya, hanya ce da take kaiwa zuwa ga matsayar da ta dace. 3 - Mai kira zuwa ga Allah, baya jiran lada a wurin mutane, kaxai yana jiran samun lada ne a wurin Ubangijin mutane.

⁴⁰ Ka ambata -Ya kai wannan Manzo - ranar da Allah zai tara su gaba xaya, sannan sai Allah ya cewa Mala'iku – don tsoratar da Mushirikai da yi musu tsawa – ya ce: "Yanzu waxannan, ku suka kasance suna bautawa a duniya, koma bayan Allah?". ⁴¹ Sai Mala'iku su ce: "Tsarki ya tabbata a gare ka, ka girmama, kai ne majivincin lamarin mu koma bayansu, babu soyayya tsakaninmu da su. Waxannan Mushirikai shaixanu suke bautawa, suna nuna musu cewa su Mala'iku ne, sai su bauta musu koma bayan Allah, mafi yawansu sun yi imani da su". ⁴² Ranar da za a tara kowa da kowa a yi hisabi, waxanda aka bautawa basa mallakar wani amfani ga waxanda suka bauta musu a nan duniya, haka ma basa mallakar wata cutarwa gare su. Kuma zamu cewa waxanda suka zalunci kansu da savon Allah, da kafirce masa: "Ku xanxani azabar wutar da kuka kasance kuna qaryata wa a duniya". ⁴³ Idan aka karanta wa waxannan mushirikai ayoyin mu, waxanda aka saukar da su ga Manzonmu, ayoyi bayyanannu babu duhu a cikinsu sai su ce: "Wannan Mutumin da ya zo da waxannan ayoyi, ba komai yake nufi ba illa ya kawar da ku daga abin da iyayenku suke kai". Kuma suka ce: "Wannan Alqur'ani ba komai ba ne face qarya ce da ya qirqira ga Allah". Waxanda suka kafirce wa Allah suka cewa ga Alqur'ani: "Ba komai ba ne face tsafi ne qarara, saboda yana raba tsakanin miji da matarsa, da xa da mahifinsa".

⁴⁴ Ba mu basu wasu littattafai ba da suke karantawa, ballantana su nuna musu cewa,

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّئُ الْبَطْلُ وَمَا يُعِيدُ^{٤٩} قُلْ إِنْ ضَلَّتْ فَإِنَّمَا أَضَلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ هَدَىٰتْ فِيمَا يُوحِي إِلَىٰ رَبِّهِ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ قَرِيبٌ^{٥٠} وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزَعُوا فَلَا فَوْتَ وَلَا خُذْلُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ^{٥١} وَقَالُوا إِمَانَابِهِ وَأَنِّي لَهُمْ أَلَّا تَنَاهُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ^{٥٢} وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ^{٥٣} وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَا عِهْمٍ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ^{٥٤}

سُورَةُ قَاتِلَةٍ

أَيْتَهَا ٤٥

نَزَّلْنَا ٢٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُوْلَئِي الْجِنْحَنَةِ مَشْنَىٰ وَرُثْلَثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^١ مَا يَفْتَحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يَمْسِكَ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ وَمِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^٢ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ أَذْكُرُ وَأَنْعَمْتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِيقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ تُوفَّكُونَ^٣

⁴⁹ Ya kai wannan Manzo, ka cewa waxannan Mushirikai masu qaryatawa: "Gaskiya ta zo, wadda ita ce Musulunci, vata ya gushe, wanda ba shi da sauran wani tasiri ko qarfi, kuma ba zai qara dawowa zuwa ga tasirinta ba". ⁵⁰ Ya kai wannan Manzo, ka ce waxannan Mushirikai masu qaryatawa: "Idan na vata ga barin gaskiya, a cikin abin da nake isar muku da shi na saqo, to cutarwar vatan a kaina zata tsaya, ba abin da zai same ku daga ciki, idan kuma na dace da shiriya a cikin hakan, to ta dalilin wahayin da Ubangijina yake yi min ne, haqiqa Allah mai jin maganganun bayinsa ne, kuma makusanci ne, jin maganganun bayinsa ba zai yi masa wahala ba". ⁵¹ Ya kai wannan Manzo, da ace zaka ga lokacin da waxannan masu qaryatawa suke razana, a lokacin da suka ga azabar Allah ranar alqiyama, kuma basu da wurin gudu da wata mafaka da zasu fake a cikinta, sannan aka kama su a wani wuri mai saukin kamu, da zaka ga haka da ka ga abin mamaki. ⁵² Suka ce a yayin da suka ga makomarsu: "Mun yi imani da ranar alqiyam" Sai dai ta yaya za su yi imani, alhali sun yi nisa da inda ake karvar imanin, don sun fita daga duniya, wadda ita ce gidan aiki ba bada sakamako ba, sun shiga gidan lahira, wanda gidan samun sakamakon ne ba aiki ba?". ⁵³ Ta yaya zasu yi imani a karvi imanin daga gare su, alhali sun kafircewa imanin tun a nan duniya, kuma suna jifa da zato wajen qin gaskiya, suna cewa: "Manzon Allah (S.A.W) matsafi ne, boka ne, mawaqi ne?". ⁵⁴ A hana waxannan masu qaryatar war samun abin da suke sha'awa na jin dixin rayuwar duniya, haka ma an haramta musu tuba daga kafirci da tsira daga wuta, da komawa rayuwar duniya, kamar yadda aka yi da makamantsu daga cikin al'ummun da suka qaryata a gabansu, haqiqa sun kasance cikin shakka akan abin da Manzanni suka zo da shi na kaxaita Allah, da imani da tashi bayan mutuwa, shakkar da ta kaisu zuwa ga kafirci.

Suratu Faxir

An Saukar Da Ita A Makkah

Daga Manufotin Surar: Bijiyo da dalilai da suke tabbarat da ikon Allah, da qwarewarsa wurin halitta, da abubuwan da zasu sa a girmama shi, a ji tsoronsa, kuma a yi imani da shi, a riqa tuna ni'imominsa.

Tafsir: ¹ Yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah, wanda ya halicci sammai da qassai ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba, wanda ya sanya 'yan-aike a cikin Mala'iku, suna zartar da abubuwan da ya tsara. Daga cikinsu akwai masu kaiwa Annabawa wahayi, waxanda ya qarfafa su a kan isar da abin da ya xora musu amanarsa. A cikin Mala'ikun akwai masu fikafikai biyu, akwai masu uku, akwai masu huxu, suna tashi da su don zartar da abin da aka umarce su. Allah yana qara abin da ya ga dama a cikin halitta, na wata gava ko kyau ko sauti. Haqiqa Allah mai iko ne a kan komai, babu abin da yake gagarar sa. ² Mabuxan komai a hannun Allah suke, duk abin da ya buxewa mutane na arziki da shiriya da kwanciyar hankali, to babu wanda ya isa ya hana, kuma duk abin da Allah ya hana daga cikin waxannan abubuwa, to babu wanda ya isa ya bayar da shi bayan Allah ya riqe abin. Allah shi ne Mabuwayin da ba wanda ya isa ya ci galaba a kansa, kuma mai hikima a cikin halittarsa da qaddarawarsa da tsarinsa.

³ Ya ku mutane, ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku, ta hanyar zukatan ku da harsunan ku da gavvanku, ta hanyar yin aiki, shin akwai wani Mahalicci ba Allah ba, wanda yake azurta ku daga sama, ta hanyar ruwan da yake saukar muku da shi, kuma yake azurta ku ta qasa, da abubuwan da yake fitar muku da su na 'ya'yan itatuwa da shuka?. Babu abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba, to amma ta yaya ake kautar da ku ga barin duk wannan gaskiyar, kuke qirqirar qarya ga Allah, kuna riya cewa yana da abokan tarayya, alhali shi ne ya halicce ku, kuma ya azurta ku?!. **Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:** 1 - Yanayin firgitar kafirai a ranar alqiyama yanayi ne babba. 2 - Imani yana yin amfani ne a duniya, domin ita ce gidan yin aiki. 3 - Girman halittar Mala'iku, yana nuna girman Mahalicciinsu.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَعْرَفُوكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 وَلَا يُغْرِيَنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ٩ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَلَا تَخْذُوهُ
 عَدُوُّ الْإِنْسَانِ دُعْوَاهُرْجِيَّهُ وَلِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١٠ الَّذِينَ
 كَفَرُوا هُمْ عَذَابُ شَدِيدٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَيْرٌ ١١ أَفَمَنْ زِينَ لَهُ وَسُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَاتِهِنَّ
 اللَّهُ يُضْلِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَهَّبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ
 حَسَرَتْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٢ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
 الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتٍ فَلَاحِيَنَاهُ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ١٣ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَلِلَّهِ الْعَزَّةُ جُمِيعًا
 إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَوَافِرُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ
 يَمْكُرُونَ أَسْيَاطَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُؤُ لَتِئَكُ هُوَيَبُورُ
 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا
 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضْعُ إِلَّا يُعْلِمُهُ وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعْمَرٍ
 وَلَا يُنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ١٤

^٤ Ya kai wannan Manzo, idan mutanenka sun qaryata ka, to ka yi haquri, ba kai ne farkon Manzon da mutanensa suka qaryata shi ba, al'ummun da suka gabace ka sun qaryata Manzannin su, kamar Adawa, da Samudawa, da mutanen Annabi Lux, amma ga Allah kaxai ake mayar da al'amura gaba xaya, sai ya halakar da masu qaryatawa, ya taimaki Manzannin sa, da Muminai.

^٥ Ya ku mutane, haqiqa abin da Allah ya yi alqawarinsa - na tashi bayan mutuwa, da bada sakamako ranar alqiyama - gaskiya ne, babu shakka a ciki, don haka kada dixin duniya da sha'awarta ya ruxe ku, ga barin yin tanadi da ayyuka na qwarai don wannan rana, kuma kada shaixan ya yaudareku ta hanyar qawata muku varna, da karkata ga rayuwar duniya.

^٦ Haqiqa shaixan maqiyinku ne – Ya ku mutane - har abada, don haka ku riqe shi abokin gaba, ta hanyar lazimtar yaqar sa. kaxai dai shi yana kiran mabiyansa ne zuwa kafirce wa Allah, don qarshe makomarsu ta zama shiga wuta mai ruruwa, a ranar alqiyama.

^٧ Kuma waxanda suka kafirce wa Allah, don biyayya ga shaixan, suna da azaba mai qarfi. Waxanda kuwa suka yi imani da Allah, kuma suka yi ayyuka nagari, suna da gafarar zunubansu daga Allah, kuma suna lada mai girma daga gare shi, shi ne Aljannah.

^٨ Haqiqa duk wanda Shaixan ya qawata masa mummuman aikinsa, ya qudurce cewa kyakkyyawa ne, ba daidai yake da wanda Allah ya qawata

masa gaskiya ba, kuma ya qudurce cewa gaskiya ce, Haqiqa Allah yana vatar da wanda ya ga dama, kuma yana shiryar da wanda ya ga dama, babu mai tilasta masa, don haka kada ka halakar da kanka – Ya kai wannan Manzo - don damuwa akan vatan vatattu, haqiqa Allah ya san abin da suke aikatawa, babu abin da yake vuya gare shi daga ayyukan su.

^٩ Allah ne yake aiko da iska, sai wannan iskar ta motsa girgije, sai mu kora wannan girgije zuwa ga wani gari da babu wani tsiro a cikinsa, sai mu raya qasa da wannan ruwan, bayan bushewarta, ta hanyar abin da muke fito da shi na daga tsirrai, to kamar yadda muka raya wannan qasa bayan mutuwarta, ta hanyar abin da muka saka a cikinta na tsirrai, haka nan tashin matattu yake kasancewa ranar alqiyama.

^{١٠} Duk wanda yake son xaukaka a duniya ko a lahir, to kada ya neme ta sai a wurin Allah, domin Allah kaxai yake da xaukaka a cikinsu, kuma gare shi ne daddaxan ambaton sa yake hawa, haka nan ayyukan bayi na qwarai ana xaga su zuwa gare shi. Waxanda suke shirya mummuman makirci - kamar qoqarin kashe Manzon Allah (S.A.W) - suna da azaba mai tsanani. Kuma makircin waxannan kafirai yana vacewa ya lalace, manufarsu bata cika.

^{١١} Allah shi ne ya halicci baban ku Annabi Adam daga turvaya, sannan ya halicce ku daga xigon maniyyi, sannan ya sanya ku maza da mata, kuna yin aure a tsakaninku. Babu wata mace zata xauki cikin wani jariri, haka ma ba zata haife xanta ba face sai da sanin Allah, babu abin da yake vuya a gare shi daga cikin haka, kuma babu wani abin da yake qaruwa a rayuwar xayanku, ko ya ragu daga cikinta, face sai hakan yana rubuce a cikin Lauhul Mahfuz, tabbas wannan abin da aka ambata – na halittarku daga turvaya, da halittarku matakai bayan matakai, da rubuta shekarun ku a Lauhul Mahfuz – abu ne mai sauqi a wurin Allah.

✿ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Lallashin Manzon Allah (S.A.W) ta hanyar ambaton labaran Manzanni da mutanensu.

2 - Ruxuwa da duniya yana janyo bijirewa gaskiya. 3 - Riqr shaixan abokin gaba, yana Kasancewa ne ta hanyar riqo da abubuwan da baya so, kamar ambaton Allah, karatun alqur'ani, aikata xa'a ga Allah, da kuma barin savo.

4 - Tabbatar da siffar xaukaka ga Allah (S.W.T).

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا
مَلْحٌ أَجْاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلٍ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَحْرِجُونَ
حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَكَ فِيهِ مَوَاحِرٌ لِتَبَغُّونَ مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٢ يُولَجُ الْيَلَى فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ
النَّهَارَ فِي الْيَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي
لِأَجْلِ مُسَمٍّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ١٣ إِنْ
تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا أَسْتَجَابُوا لَكُمْ
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرِكَكُمْ وَلَا يُنْتَكُ مِثْلُ حَيْرٍ
يَا يَا إِنَّ الْأَنْسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ ١٤
الْحَمْدُ لِلَّهِ ١٥ إِنْ يَشَاءُذْهَبْ كُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعِزِيزٍ ١٦ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ آخرَيْ وَلَنْ
تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
إِنَّمَا تُنْذَرُ الظَّنِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَمَنْ تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١٧

١٢ Tekuna guda biyu baza su yi daidai ba, xayansu mai daxi ne sosai, mai sauqin sha saboda daxinsa, xayan kuma mai zartsi ne, ba a iya shansa, saboda zartsin sa, amma kuma daga cikin kowanne tekunan guda biyu, kuna cin xanyen nama, wanda shi ne kifi, kuma kuna fito da lu'u lu'u da murjani daga cikin su, waxanda kuke sawa a matsayin ado. Kuma zaka ga jiragen ruwa – Yai kai mai kallo - suna keta cikin tekunan, suna zuwa, suna dawowa, don nema daga falalar Allah, ta hanyar yin kasuwanci, ko kwa gode wa Allah akan wannan ni'imar da ya yi muku, daga cikin ni'imominsa masu yawa.

١٣ Allah yana shigar da dare cikin yini, sai ya qara masa tsawo, kuma yana shigar da yini cikin dare, sai ya qara masa tsawo, kuma tsarki ya tabbata a gare shi ya hore rana, ya hore wata, kowannensu yana tafiya a cikin qayyadajjen lokaci da Allah ne kaxai ya sani, wanda yake qaddara haka ya gudanar da shi shi ne Allah Ubangijinku, shi kaxai yake da mulki, waxanda kuke bautawa koma bayan Allah, na daga gumaka, basa mallakar ‘yar farar fatar da take cikin qwallon dabino, to ta yaya kuke bauta musu koma bayana.

١٤ Idan kuka kirawo waxanda kuke bautawa basa jin kiran ku, su daskararru ne, babu rayuwa a jikinsu, kuma basa ji, kuma da zasu ji kiran ku – idan an qaddara hakan - da baza su iya amsa muku ba, kuma ranar alqiyama zasu barranta daga shirkar ku da bautar da kuka yi musu. Ya kai wannan Manzo babu wanda zai baka labari, wanda ya fi Allah gaskiya.

١٥ Ya ku mutane, ku ne mabuqata ga Allah a cikin duk lamarin ku, da dukkan yanayin da kuke ciki, Allah shi ne Mawadacin da ba shi da wata buqata a wurin ku, abin yabo a nan duniya da lahira a kan yadda yake tsarawa ga bayinsa.

١٦ Idan Allah mai tsarki ya ga damar ya kawar da ku, ta hanyar halakar da ku, sai ya halakar da ku, ya kawo wata sabuwar halittar, waxanda baza su yi shirkda shi ba, ko kaxan.

١٧ Kawar da ku ta hanyar halaka ku, da zuwa da wata halitta sabuwa a madadinku, ba abu ba ne da ba zai yiwu ba a wurin Allah (S.W.T).

١٨ Wata rai mai zunubi bata xaukan zunubin wata ran mai zunubi dabani, kowace rai mai zunubi zata xauki zunubinta ne, kuma da wata rai da take xauke da nauyin zunubin ta zata kira wani don ya zo ya xauke mata zunubanta, to ba zai xauke mata komai daga zunubanta ba, koda kuwa wanda ta kirawo xin makusancinta ne. Ya kai wannan Manzo, kaxai kana yin gargaxi ne da azabar Allah ga wanda suke tsoron Allah a voye, kuma suka cika sallah a bisa mafi cikar siffarta, su ne suke amfana da gargaxin ka. Duk wanda ya tsarkaka daga savon Allah - wanda mafi girmansu shi ne shirkda - to kansa ya tsarkake, saboda amfanin haka kansa zai koma, domin Allah Mawadaci ne ga barin biyayyarsa, kuma ga Allah za a koma ranar alqiyama, don yin hisabi da bada sakamako.

✿ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Hore teku, da zuwan dare da yini, da horewar rana da wata, suna daga cikin ni'imomin Allah ga mutane, sai dai mutane saboda sun saba da waxannan ni'imomi sai suke gafala daga barinsu.

2 - Wawancin hankulan mushrikai, yayin da suke kiran gumakan da basa ji, kuma basu da hankali.

3 - Buqatuwa zuwa ga Allah siffa ce wanda take lazimtar duk wani mutum, Wadata kuwa sifface ta kamala ga Allah.

4 - Tsarkake zuciya aikin bawa ne, in ya ga dama ya tsarkake ta, in kuwa ya ga dama ya tozarta ta.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ^{١٩} وَلَا الظَّلْمَتُ وَلَا النُّورُ
 وَلَا الظُّلْلُ وَلَا الْحَرُورُ^{٢٠} وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا
 الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي
 الْقُبُورِ^{٢١} إِنَّكَ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ^{٢٢} إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بِشِيرًا
 وَنَذِيرًا وَإِنْ مَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّفَهَا نَذِيرٌ^{٢٣} وَإِنْ يُكَذِّبُوكُمْ
 فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
 وَبِالْأَبْيُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ^{٢٤} ثُمَّ أَخْذَتُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ^{٢٥} الْمَرْءَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا الْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ
 جُدُودٌ يَضْعُ وَحْمُرٌ مُّخْتَلِفُ الْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ^{٢٦}
 وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَمِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ وَكَذَلِكَ
 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمُوْا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ^{٢٧}
 إِنَّ الَّذِينَ يَتَوَلَُّونَ كَتَبَ اللَّهُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
 رَزَقَهُمْ سَرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْدِرَةً لَّنْ تَبُورَ^{٢٨} لَيُوَفِّيهِمْ
 أُجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ^{٢٩}

^{١٩} Kafiri da Mumini baza su tava zama daidai ba a daraja, kamar yadda makaho da mai ido baza su tava zama daidai ba.

^{٢٠} Haka kafirci da imani baza su tava zama daidai ba, kamar yadda duhu da haske baza su tava zama daidai ba.

^{٢١} Wuta da Aljannah baza su tava zama daidai ba a tasirinsu, kamar yadda inuwa da iska mai huro zafi baza su tava daidaita ba.

^{٢٢} Kuma Muminai da Kafirai baza su tava zama daidai ba, kamar yadda rayayyu da matattu baza su taba zama daidai ba. Haqiqa Allah yana jiyar da wanda ya ga damar shiriyarsa, kuma ya kai wannan Manzo, baza ka iya jiyar da kafirai shiriya ba, waxanda suke kamar matattu ne a cikin qaburburansu.

^{٢٣} Kai mai gargaxi ne kwai a gare su daga azabar Allah.

^{٢٤} Ya kai wannan Manzo, haqiqa mun aiko ka da gaskiya, wadda babu kokwanto a cikinta, kana mai yin bushara ga Muminai da abin da Allah ya tanadar musu na lada mai girma, kuma kana mai gargaxi ga kafirai da abin da Allah ya tanadar musu na azaba mai raxaxi. Babu wata al'umma daga cikin al'ummun da suka gabata face sai da Manzo daga Allah ya zo mata, yana yi musu gargaxi daga azabar Allah.

^{٢٥} Idan sun qaryata ka - Ya kai wannan Manzo, - to ka yi haquri, kuma ba kai ba ne farkon Manzon da mutanensa suka qaryata shi ba, al'ummun da suka gabata sun qaryata Manzanninsu, irinsu Adawa, da Samudawa, da mutanen Annabi Lux,

Manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu, da suke nuna gaskiyarsu, kuma Manzanninsu sun zo musu da takardu, da littafi mai haskakawa, ga wanda lura da shi, ya maida hankali ga abin da yake cikinsa.

^{٢٦} Amma tare da haka suka kafirce wa Allah da Manzannin sa, basu gasgata su a cikin abin da suka zo da shi daga wajen Allah ba, sai na halakar da waxanda suka Kafirce, ka lura - Ya kai wannan Manzon -, yaya inkarina ya kasance a kansu, ta yadda na halakar da su. ^{٢٧} Shin baka gani ba - Ya kai wannan Manzo - Allah Maxaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama, sai muka fitar da da 'ya'yan itatuwa kala-kala da wannan ruwa, a cikinsu akwai ja, da kore, fatsifatsi, da wasunsu, bayan mun shayar da bishiyoyinsu da wannan ruwan. A cikin duwatsu akwai hanyoyi farare, da jajaye, da kuma baqaqe wuluk. ^{٢٨} Daga cikin mutane, da dabbobi, da dabbobin ni'ima (Raquma, da shanu, da tumaki) akwai kala-kala kamar yadda aka ambata a wajen 'ya'yan itatuwa, haqiqa babu wanda yake girmama matsayin Allah, kuma yake jin tsoronsa, sai waxanda suka san shi, tsarki ya tabbata a gare shi, domin sun san siffofinsa da shari'arsa, da hujjojin da suke tabbatar da ikonsa. Haqiqa Allah Mabuwayi ne, babu wanda yake iya rinjayarsa, mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa.

^{٢٩} Haqiqa waxanda suke karanta littafin Allah, wanda muka saukar da shi ga Manzonmu, kuma suke yin aiki da abin da yake cikinsa, suka cika sallah a bisa mafi kyan siffa, kuma suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi, ta hanyar yin zakka, da waninta a voye da bayyane, suna nufin wani kasuwanci da Allah da waxannan ayyuka, wanda baya lalacewa. ^{٣٠} Don Allah ya cika musu ladan ayyukansu cikakke, kuma ya qara musu daga falalarsa, domin shi ma'abocin haka ne. Haqiqa Shi Allah mai yawan gafara ne ga zunuban waxanda suka siffatu da waxancan siffofi, kuma mai yawan gode musu ne a kan ayyukansu masu kyau.

◆ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa: 1 - Kore daidaito a tsakanin gaskiya da ma'abotanta a bangare guda, da kore daidaitu tsakanin vata da ma'abotansa a xaya vangaren.

2 - Yawan adadin Manzannin Allah gabannin Manzonmu (S.A.W) yana nuna jin qan Allah, da kuma da yadda mutane suke da taurin kai. 3 - Halakar da masu qaryatawa sunna ce ta Allah.

4 - Siffatuwa da siffofin imani kasuwanci ne mai riba. Siffatuwa da siffofin kafirci kasuwanci ne cike da asara.

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ هُوَ الْحُقْقُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُعِبَادُهُ لَخَيْرٌ بَصِيرٌ ۝ ثُرَّاً وَرَثَتِ الْكِتَبَ
الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَادِنَ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ
الْفَضْلُ الْكَيْرٌ ۝ جَتَّثُ عَدَنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝
وَقَالُوا لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَّنَا غَفُورٌ
شَكُورٌ ۝ الَّذِي أَحْلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسِنَا
فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا الْغُوبُ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ
نَارٌ جَهَنَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخْفَى عَنْهُمْ مِنْ
عَذَابِهَا كَذَلِكَ بَخْزِي كُلُّ كُفُورٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ
فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ
أَوْلَئِنْدَ نُعَمِّرُ كُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُمُ الْنَّذِيرُ
فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ
غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

31 Abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka - Ya kai wannan Manzo - na littafi, shi ne gaskiyar da babu shakka a cikinta, wanda Allah ya saukar da shi yana mai gasgata littattafan da suka gabata. Haqqa Allah Masani ne mai bada labari ne, kuma mai gani ne ga bayinsa, shi ne yake yin wahayi ga Manzon kowace al'umma, da abin da take buqata a zamaninta.

32 Sannan muka ba wa al'ummar Annabi Muhammad (S.A.W) wadda muka zave ta Alqur'ani, a cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa, ta hanyar aikata haramun da barin wajibai, kuma daga cikinsu akwai tsaka-tsakiya, ta hanyar aikata wajibai, da barin haramun, tare da barin wani vangare na mustahabi, da aikata wani vangare na makaruhai, kuma a cikinsu akwai waxanda suka tsere cikin aikin alheri da izinin Allah, ta hanyar aikata wajibai, da mustahabi, da barin haramun da makaruhai. Wannan abin da aka ambata na zavar wannan al'umma, da bata Alqur'ani ita ce falala mai girma, wadda babu falalar da ta kai ta.

33 Aljannatai na zama, waxannan da aka zava za su shiga, za su sanya kaya na lu'ulu'u da awarwaro na zinare, kuma tufafinsu alhariri ne a cikinta.

34 Suka ce bayan sun shiga cikin Aljanna: "Godiya da kirari sun tabbata ga Allah, wanda ya gusar mana da damuwa, saboda tsoron da muka kasance muna yi na shiga wuta, lallai Ubangijin mu mai yawan gafara ne ga zunuban wanda ya tuba gare shi daga cikin bayinsa, kuma mai yawan godiya ne a gare su saboda xa'arsu.

35 Wanda ya saukar da mu masauki na dindindin, wanda babu tashi daga cikinsa da falalarsa, ba da dabadar mu ko qarfinmu ba. Wahala ko gajiya basa samun mu a cikinta.

Yayin da Allah ya ambaci sakamakon bayinsa waxanda ya zava, sai ya ambaci sakamakon qasqantattu daga cikinsu, su ne kafirai, ya ce:

36 Waxanda suka kafirce wa Allah, suna da wutar Jahannama, za su dawwama a cikinta, ba za a hukunta musu mutuwa ba, ballantana su mutu, su huta da azaba, kuma ba za a sassauta musu wani abu daga azabar Jahannama ba. Irin wannan sakamako shi ne muke sakawa duk wani inkarin ni'imar Ubangijinsa a ranar Alqiyama.

37 Suna ihm da qara da qarfi a cikinta suna cewa: "Ya Ubangijin mu ka fitar da mu daga cikin wuta, za mu yi aiki nagari, ba irin wanda muka kasance muna yi ba a duniya, don mu samu yardar ka, mu kuvuta daga azabarka". Sai Allah ya ce musu: "Ashe bamu sanya ku, kun rayu tsawon shekarun da wanda ya ga dama zai iya wa'azantuwa, ya tuba ga Allah, ya yi aiki nagari ba, kuma Manzo ya zo muku yana mai gargaxinku da azabar Allah? Don haka baku da wata hujja, baku da wani uzuri bayan dukkan abin da ya gabata, don haka ku xanxani azabar wuta, Waxanda suka zalunci kansu da kafirci da savo basu da wani mataimaki, zai tseratar da su daga azabar Allah, ko ya rangwanta musu.

38 Haqqa Allah shi ne masanin gaibun dake cikin Sammai da Qassai, babu abin da yake vuya a gare shi daga cikinsu, kuma lallai shi Masani ne ga abubuwan da bayinsa suke voyewa a qirazansu, na alheri ko sharri.

❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Falalar al'ummar Annabi Muhammad (S.A.W) akan sauran al'ummu.

2 - Fifikon imanin Muminai, yana nuna fifikon matsayinsu a duniya da lahiria.

3 - Lokaci amana ce da ya wajaba a kiyaye ta, kuma duk wanda ya tozarta ta, to zai yi nadama, a inda nadama bata amfani.

4 - Ilimin Allah ya kewaye dukkan komai.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَقِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُورٌ وَلَا يَرِيدُ الْكَفِيرُونَ كُفُورًا عِنْدَ رِبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَأً وَلَا يَرِيدُ الْكَفِيرُونَ كُفُورًا إِلَّا خَسَارًا ﴿٣﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُلِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرَوْنِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرُكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْصُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَئِنْ زَلَّتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٥﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأَمْرِ فَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٦﴾ أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ الْسَّيِّئَاتِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ الْسَّيِّئُ إِلَيْهِمْ فَهُنَّ بَنِيَّ نُظُرٍ وَلَا سُنْتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِزِّزَهُ وَمِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٨﴾

^{٣٩} Allah Shi ne wanda ya sanya ku – Ya ku mutane – sashen ku yana maye gurbin sashe, don ya jarabe ku, ya ga me zaku aikata. Duk wanda ya kafirce wa Allah, ya kafirce wa abin da Manzanni suka zo da shi, to laifin kafircinsa da uqubarsa a kansa za su koma, kafircinsa ba zai cutar da Ubangijinsa ba, kuma kafircin kafirai baya qara musu komai a wurin Allah sai baqin jini mai tsanani, haka nan kafircin kafirai baya qara musu komai a wurin Allah sai asara, ta inda suka yi asarar abin da Allah ya tanadar musu a Aljannah da ace sun yi imani.

^{٤٠} Ka cewa waxannan mushirikai - Ya kai wannan Manzo :- "Ku ba ni labarin abokan tarayyarku, waxanda kuke bauta musu koma bayan Allah, me suka iya halitta a bayan qasa? Shin su suka halicci duwatsun ta? Shin sun halicci qoramun ta? Shin sun halicci dabbobin ta? Ko kuwa sun yi tarayya da Allah wurin halittar Sammai? Ko kuma mun basu wani littafi ne da a cikinsa akwai hujja a kan ingancin bautar gumaka da suke yi? Babu wani abu da ya faru daga cikin waxannan abubuwa, kai! Ba komai waxanda suka zalunci kansu da kafirci da savo suke yi wa juna alqawari da shi ba face yaudara.

^{٤١} Haqiqa Allah tsarki ya tabbata a gare shi, yana riqe da sammai da qassai, yana mai hana su gushewa, kuma da za a qaddara ma su gushe, to babu wanda ya isa ya riqe su, ya hana su gushewa, wanda ba shi ba. Haqiqa ya tabbata mai haquri, baya gaggauta yin uquba, kuma mai ywan gafara ne ga zunuban wanda ya tuba daga cikin bayinsa.

^{٤٢} Waxannan kafirai masu qaryatawa sun yi rantsuwa mai qarfi mai kauri, cewa: "Wallahi idan Manzo ya zo musu daga Allah, yana musu gargaxi daga azabarsa, zasu kasance mafi tsayuwa da bin gaskiya sama da Yahudu da Nasara da sauransu. Yakin da Annabi Muhammad (S.A.W) ya zo musu, a matsayin Manzo daga Ubangijinsa, yana tsoratar da su azabar Allah, ba abin da zuwan nasa ya qara musu face qara nisa ga barin gaskiya, da maqalewa vata, basu cika abin da suka yi rantsuwa mai qarfi a kansa ba, na cewa zasu zama mafi shiriya daga waxanda suka gabace su.

^{٤٣} Rantsuwar da suka yi da Allah a kan abin da suka rantse a kai, ba sun yi ba ne bisa kyakkyawar niyya da nufi mai kyau, kawai sun yi ne don girman kai da yaudara ga mutane, sai mummunan makirci baya haxawa da kowa sai da masu qulla shi, don haka waxannan masu girman kan da makircin ba komai suke jira ba, face sunnar Allah tabbatacciyi, ita ce halakar da su, kamar yadda ya halakar da waxanda suka gabace su, kuma ba zaka samu canji a cikin sunnar Allah ba, wajen halakar da masu girman kai, canjin da zai hana ta faru a kansu, ko ta koma kan wasun su, saboda sunnar Allah ce tabbatacciyi.

^{٤٤} Yanzu waxanda suke qaryata ka daga cikin Quraishawa ba su yi tafiya a bayan qasa ba, su lura yaya qarshen waxanda suka qaryata daga al'ummun da suka gabace su ba ya kasance? Ashe qarshensu bai kasance mummunan qarshe ba, ta yadda Allah ya halakar da su, alhali sun kasance mafi tsananin qarfi fiye da Quraishawa?. Babu wani abu da yake kubcewa Allah a cikin sammai da qassai, domin shi masani ne da ayyukan waxannan masu qaryatawa, babu abin da yake vuya daga cikin ayyukansu, ko kuma ya kuvuce masa, kuma shi mai cikakken iko ne akan ya halakar da su duk lokacin da ya ga dama.

❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Kafirci sababi ne mai janyo fushin Allah, kuma hanya ce ta asara da tavewa.
- 2 - Mushirikai basu da hujja ta hankali ko ta shari'a a kan yin shirka.
- 3 - Halakar azzalumi tana cikin abin da yake tsarawa, ko a kusa ko a nesa.

وَلَوْيُؤَاخِذُ اللَّهُ أَنَّاسٍ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا
مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمٍّ فَإِذَا
جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

٨٣

سُورَةُ يَسْ

٣٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْ ۝ وَالْقُرْءَانُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنذِرَ قَوْمًا
مَا أَنْذَرَ إِبْرَاهِيمَ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ كُثُرٍ هُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَىٰ
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ ۝ وَسَوْءَاءُ
عَلَيْهِمْ أَنْذِرَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّمَا تُنذِرُ
مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْعَيْنِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ
وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَا قَدَّمُوا
وَإِثْرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

45 - Da Allah zai gaggauta yi wa mutane uquba,
saboda da abin da suka aikata na savo, da abin
da suka yi na zunubai, da ya halakar da duk
waxanda suke cikin bayan qasa a take, da abin
da suka mallaka na dabbobi da dukiyoyi, sai dai
shi Allah (S.W.T) yana jinkirta musu har zuwa
wani lokaci qayyadajje a cikin iliminsa, shi ne
ranar alqiyama, idan ranar ta zo, to haqiqa Allah
ya tabbata mai ganin bayinsa ne, babu wani
abin da yake vuya gare shi, sai ya saka musu a
kan ayyukansa, wanda ya yi alheri ya ga alheri,
wanda ya yi sharri ya ga sharri.

Suratu Yasin

An Saukar Da Ita A Makkah

Daga Manufotin Surar: Tabbatar da Manzanci, da tashi bayan mutuwa, tare da bayyana dalilansu.

Tafsir: ① (Yaasin) Bayani ya gabata a kan iren waxannan haruffa a farkon Suratul Baqara.
 ② Allah yana rantsuwa da Alqur'ani, wanda aka kyautata ayoyinsa. Wanda yarna bata zuwan masa ta gabansa ko ta bayansa. ③ Haqiqa - Ya kai wannan Manzo – kana cikin Manzanni, waxanda Allah ya aiko su zuwa ga bayinsa, don su umarce su da kaxaita Allah da bauta masa shi kaxai.

④ ⑤ A kan tafarki madaidaici da shari'a miqaqqiya. Wannan tafarki madaidaici da shari'ar miqaqqiya an saukar da su daga Ubangijinka, Mabuwayi wanda ba a yin galaba a kansa, mai tausayin bayinsa Muminai.

⑥ Mun saukar maka da wannan ne, don ka tsoratar da wasu mutane, ka yi musu gargaxi, su ne larabawa waxanda wani Manzo bai zo musu yana gargaxin su ba, don haka suna cikin rafkana ga barin imani da kaxaita Allah, haka nan sha'anin duk wata al'umma da gargaxi ya yanke mata, kuma take da buqatar wanda zai tunatar da ita cikin Manzanni yake. ⑦ Tabbas azabar Allah ta tabbata a kan mafi yawanci waxannan, bayan gaskiya ta zo musu daga Allah, a bisa harshen Annabinsa (S.A.W) amma ba su yi imani da ita ba, suka zauna cikin kafircinsu, ba su yi imani da Allah da Manzonsa ba, kuma ba sa yin aiki da abin da ya zo musu da shi na gaskiya ba. ⑧ Misalinsu kamar misalin waxanda aka sanya musu ququmi ne a wuyansu, kuma aka haxa hannayensu da wuyansu a qarqashin havarsu, don haka dole su riqa xaga kawunansu zuwa sama, kuma ba za su iya sunkuyar da kawunansu ba, to waxannan xaurarru ne ga barin imani da Allah, ba za su tava sunkuyawa gare shi ba, ba kuma za su iya ranqwafa kawunansu qasa saboda shi ba. ⑨ Mun sanya shamaki a gabansu ga barin gaskiya, haka ma a bayansu mun sanya shamaki, kuma mun rufe idanuwansu ga ganin gaskiya, basa ganin da zai amfane su. Hakan ya faru da su ne bayan sun bayyana girman kansu da zarcewarsu a kan kafirci. ⑩ Duk xaya ne a gun waxannan kafiran masu taurin kai ga gaskiya, ka tsoratar da su – Ya Muhammad - ko baka tsoratar da su ba, ba zasu yi imani da abin da ka zo da shi ba daga wurin Allah.

⑪ Haqiqa wanda yake amfanuwa da gargaxin ka, shi ne wanda ya gasgata da wannan Alqur'ani, kuma ya bi abin da ya zo a cikinsa, ya ji tsoron Ubangijinsa a voye, inda babu mai ganinsa, to wanda wannan ce siffar sa to ka bashi labarin da zai faranta masa rai, na goge masa zunubansu da gafarta masa, da kuma lada mai girma da yake jiransa a lahira, shi ne shiga Aljannah. ⑫ Lallai mune muke raya matattu, ta hanyar tashin su don yi musu hisabi ranar alqiyama, kuma muna rubuta abubuwan da suka gabatar a rayuwersu ta duniya, na ayyuka nagartattu da munana, kuma muna rubuta abin da suka bari bayan mutuwarsu, na aiki nagari, kamar sadaka mai gudana, ko na mummunan aiki, kamar kafirci. Mun qididdige dukkan komai a wani littafi bayyananne, shi ne Lauhul Mahfuz.

Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa: 1 - Taurin kai yana hana shiriya zuwa gaskiya. 2 - Yin aiki da Alqur'ani da tsoron Allah, suna cikin sabubban da suke sa shiga Aljannah.
 3 - Falalar xa nagari, da sadaka mai gudana, da abin da ya yi kama da su ga bawa Mumini.

وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
 إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِاللَّٰٓتِ فَقَالُوا
 إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا مَا آتَنُّم إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
 وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَتَنُّم إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا
 رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا عَلِيَّنَا إِلَّا الْبَلْغُ
 الْمُّبِينُ ﴿١٩﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَهَّرْنَا كُلُّ لِّئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا النَّجْمُونَ كُمْ
 وَلَيَمْسِنَّكُمْ مَنْ تَأْذَابُ أَلَيْمُ ﴿٢٠﴾ قَالُوا طَهِّرْ كُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ
 ذُكْرُتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِّفُونَ ﴿٢١﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
 رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَقُومُ أَتَبِعُهُ أَمْرُسَلِيْتَ ﴿٢٢﴾ أَتَبِعُهُ
 مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهَتَّدُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ
 الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾ أَتَخْذُ مِنْ دُونِهِ حَمَدَةَ
 إِنْ يُرِدُنَ الْرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
 وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿٢٥﴾ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٦﴾ إِنِّي أَمَنْتُ
 بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونَ ﴿٢٧﴾ قِيلَ أَدْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ يَكْتَبَ قَوْمِي
 يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرَّمِينَ ﴿٢٩﴾

(13) Ya kai wannan Manzo, ka bugawa waxannan masu qaryatawa, masu taurin kai, wani misalin da zai zamar musu izina, shi ne labarin ma'abota alqarya, yayin da Manzanni suka zo musu.

(14) A yayin da da farko muka aika musu da Manzanni guda biyu, domin su kira su zuwa ga kaxaita Allah da bauta masa, amma sai suka qaryata waxannan Manzanni guda biyu, sai muka qarfafa su da Manzo na uku. Waxannan Manzannin guda uku suka cewa ma'abota alqarya: "Haqqa duk mu ukun Manzanni ne zuwa gareku, don mu kira ku zuwa ga kaxaita Allah, da bin shari'arsa".

(15) Sai mutanen wannan Alqarya suka cewa Manzanninsu: "Ku ba kowa ba ne face mutane irin mu, baku da wani fifiko a kanmu, kuma babu wani abu da Allah mai rahama ya saukar muku na wahayi, kawai qarya kuke yi wa Allah a cikin wannan da'awar taku".

(16) Sai Manzannin nan guda uku suka ce, suna masu mayar da martani ga mutanen Alqaryar: "Ubangijin mu ya san cewa mu Manzanni ne zuwa gare ku ya ku ma'abota Alqarya, kuma wannan ya ishe mu hujja".

(17) Kuma babu abin da yake kanmu sai isar da abin da aka umarce mu da isar da shi gare ku a bayyane, ba ma mallakar shiryar da ku".

(18) Sai mutanen Alqarya suka cewa Manzanninsu: "Haqqa mu, mun camfa ku, kuma idan baku daina kiran mu zuwa ga kaxaita Allah ba, zamu yi muku uquba ta hanyar jefewa, har sai kun mutu, kuma tabbas azaba mai raxaxi zata same ku daga gare mu".

(19) Sai Manzannin suka mayar musu da martani suka ce: "Camfin ku yana tare da ku, saboda kafircin ku ga Allah, da qin biyayya ga Manzanninsa. Yanzu kwa riqa yin camfi da mu saboda kawai mun tunar da ku Allah? Kawai dai ku mutane ne masu varna ta hanyar kafirci da savo".

(20) Wani mutum ya zo daga wani wuri mai nisa daga cikin Alqaryar yana sauri, don jin tsoro ga mutanensa wajen qaryata Manzanni, da tsoratar da su da kisa da cutar da su, ya ce: "Ya ku mutane ku bi abin da waxannan Manzanni suka zo muku da shi".

(21) Ya ku mutane, ku bi waxanda basa tambayarku wani lada a kan isar da abin suka zo muku da shi, kuma su shiryayyu ne cikin abin da suke isarwa daga Allah na wahayinsa, saboda duk wanda yake haka to ya cancanta a yi masa biyayya".

(22) Wannan mutumin mai nasiha ya ce: "Wane abu ne zai hana ni bautawa Allah wanda ya halicce ni? Kuma wane abu ne zai hana ku bautawa Ubangijinku wanda ya halicce ku? Kuma gare shi kaxai za a komar da ku, ta hanyar tashin ku bayan kun mutu, don yin sakamako".

(23) "Yanzu, na riqi wasu ababen bauta ba da gaskiya ba, koma bayan Allah, wanda ya halicce ni? Idan Allah mai rahama ya nufe ni da mummunan abu, ceton waxannan abubuwan bautar ba zai amfana min komai ba, basa mallakar cutar da ni ko amfanarwa, kuma ba za su iya tseratar da ni daga mummunan abin da Allah ya yi nufin shi gare ni ba, in na mutu a kan kafirci"

(24) Haqqa ni, idan na riqi wasu ababen bauta koma bayan Allah, to tabbas ina cikin kuskure mabayyani, don na bautawa abin da bai cancanta a bauta masa ba, na bar bautar wanda ya cancanta.

(25) Ya ku mutane, haqqa ni na yi imani da Ubangijina, kuma Ubangijinku gaba xaya, don haka ku saurare ni, ban damu da abin da kuke tsorata ni da shi na kisa ba. Sai dai babu abin da mutanensa suka yi face suka kashe shi, sai Allah ya shigar da shi Aljannah.

(26) (27) Sai aka ce masa, cikin girmamawa bayan ya yi shahada: "Shiga Aljannah, yayin da ya shiga ya ga abubuwan da suke cikinta na ni'imomi, sai yi buri ya ce: "Ina ma dai mutane na waxanda suka qaryata ni, suka kashe ni, su san abin da ya same ni, na gafarar zunubai, da abin da Ubangiji na ya girmama ni da shi, don su yi imani, kamar yadda na yi imani, su samu sakamako irin sakamakon da na samu".

Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa: 1 - Muhimmancin bada labaran magabata wurin kira zuwa ga Allah. 2 - Camfi aiki ne daga ayyukan kafirci. na Kafirci. 3 - Nasiha ga masu gaskiya wajibi ce. 4 - So wa mutane alheri, alama ce ta masu imani.